

کتابت و تراجم
ظالمون

منار

محمد عبدالرحیم ناشر و تاجر عزیز مارکیٹ لاہور
اردو بازار

A/AKEE

و متزجہ
ظلالِ محبوبہ

منارہ

محمد عبدالرحیم ناشر و تاجر
عزیز مارکیٹ لاہور
اردو بازار

HAREE

سرفیکریٹ تصحیح

ہم نے اس مجموعہ وظائف کے نسخہ کی قرآنی آیات مع وظائف کو اول آخر حرف بحرف بغور پڑھا ہے ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے متن میں کوئی لفظی یا اعرابی غلطی نہیں ہے۔

(واللہ اعلم)

محمد رفیق چوہدری
اردو بازار لاہور

حافظ محمد مستر خان
کارڈن ٹاؤن لاہور

محمد عبدالرحیم ناشر و ناشر
عزیز مارکیٹ لاہور
اردو بازار

فہرست

سُورَتِهَاكَ وَوِطَائِفُ وَأَدْعِيَةٌ

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	فضائل و خواص	۵	۱۳	سورة الجن	۱۵۲
۲	سورة الكهف	۱۵	۱۴	سورة المزمل	۱۶۰
۳	سورة السجدة	۲۹	۱۵	سورة النبا	۱۶۶
۴	سورة يس	۵۸	۱۶	سورة الطارق	۱۶۲
۵	سورة محمد	۷۶	۱۷	سورة الفجر	۱۶۲
۶	سورة فتح	۹۰	۱۸	سورة الكافرون	۱۶۹
۷	سورة الرحمن	۱۰۲	۱۹	سورة الاخلاص	۱۸۰
۸	سورة الواقعة	۱۱۳	۲۰	سورة الفلق	۱۸۱
۹	سورة الجعة	۱۲۲	۲۱	سورة الناس	۱۸۲
۱۰	سورة التغابن	۱۲۹	۲۲	آية الكرسي	۱۸۴
۱۱	سورة الملك	۱۴۶	۲۳	اسماء الحسنی	۱۸۵
۱۲	سورة نوح	۱۵۵	۲۴	اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم	۱۸۹

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۲۵	اسماء السبع	۱۹۳	۲۰	سید الاستغفار	۳۷۷
۲۶	درود اکبر	۱۹۸	۲۱	دعائی سنت عصر	۳۷۸
۲۷	درود لکھی	۲۲۳	۲۲	دعائی شکر اللہ	۳۷۹
۲۸	درود تاج	۲۵۱	۲۳	دعائی استعاذہ	۳۸۲
۲۹	درود کبریت احمر	۲۵۵	۲۴	دعائی استخارہ	۳۸۵
۳۰	درود مستغاث	۲۷۷	۲۵	دعائی استحباب	۳۸۷
۳۱	درود مقدس	۳۱۱	۲۶	دعائی شکر النہار	۳۹۰
۳۲	درود تنجینا	۳۲۲	۲۷	دعائی حقوق والدین	۳۹۳
۳۳	ہفت ہیکل	۳۲۲	۲۸	دعائی حبیب	۳۹۴
۳۴	شش قفل	۳۲۲	۲۹	دعائی حاجت	۴۰۱
۳۵	دعائی امن	۳۲۲	۵۰	مسیبغات عشر	۴۰۲
۳۶	دعائی گنج العرش	۳۲۴	۵۱	اوزاد الاسبوع	۴۱۲
۳۷	دعائی جمیلہ	۳۴۰	۵۲	دعائی حزب البحر	۴۲۴
۳۸	دعائی عکاشہ	۳۶۵	۵۳	نماز	۴۸۷
۳۹	عہد نامہ	۳۷۵	۵۴	دعائی قنوت	۴۹۵

خطاط: منیر احمد ایس

فون: ۲۱۱۵۸۲

فضائل و خواص

سورہ کہف

صفحہ ۱۵ تا ۲۸

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے روز جو شخص سورہ کہف کو پڑھے گا اس کا دل دوسرے جمعہ تک انشاء اللہ تعالیٰ نور سے

۱۲۴۳۷۹	۱۲۴۳۸۲	۱۲۴۳۸۵	۱۲۴۳۷۱
۱۲۴۳۸۲	۱۲۴۳۷۲	۱۲۴۳۷۸	۱۲۴۳۸۳
۱۲۴۳۷۳	۱۲۴۳۸۷	۱۲۴۳۸۰	۱۲۴۳۷۷
۱۲۴۳۸۱	۱۲۴۳۷۴	۱۲۴۳۷۴	۱۲۴۳۸۴

منور رہے گا، فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا، شب جمعہ کو بھی اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آتی ہے، اس کا نقش رُفیع محتاجی کے لیے مجرب ہے، ظالم دشمن

کی تباہی کے علاوہ اگر حاملہ عورت کے گلے میں ڈالا جائے تو اس کا حمل ساقط نہ ہوگا۔

سورہ سجدہ

صفحہ ۲۹ تا ۵۷

حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت

میں سورہ المدھر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے روزانہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ صبر میں اپنے پڑھنے والے کے لیے خدا کے حضور سفارش کرے گی۔

۲۲۳	۲۵۳	۲۲۰	۲۵۱	۲۲۹	۲۱۸
۲۲۲	۲۲۸	۲۲۵	۲۲۲	۲۲۵	۲۲۹
۲۲۱	۲۳۷	۲۳۳	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۴
۲۳۰	۲۳۱	۲۳۹	۲۳۸	۲۲۰	۲۳۵
۲۲۲	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۷	۲۲۳	۲۲۷
۲۵۳	۲۱۹	۲۵۰	۲۲۱	۲۲۲	۲۲۰

سورہ السجدة
صفحہ ۲۹ تا ۵۷
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ السجدة

قرآن شریف کا دل ہے۔ اس کی تلاوت سے فلاح دارین حاصل، حاجتیں پوری اور برائیوں دفع ہوتی ہیں جو شخص محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دین گے،

صبح کے وقت پڑھے گا اس کی دن بھر کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، اس کا نقش اپنے پاس رکھنے سے ہر دلعزیز ہوگا، لوگوں میں قدر و منزلت بڑھے گی، مال میں برکت، دشمن سرنگوں، حاکم جابر سے محفوظ، مرضِ سختیاب قید سے رہائی پائے۔

سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اس سورت شریف کو پڑھے یا لکھ کر گلاب سے دھو کر پیئے تو جاہ و مرتبہ میں رفعت ہو اور اگر

صفحہ ۷۶ تا ۸۹

لکھ کر گلے میں ڈالے تو دشمنوں پر فتح یاب ہو اگر سخت مہم درپیش ہو تو اول و آخر گیارہ بار درود شریف پڑھے، انشاء اللہ اس مہم پر غالب آئے۔

۲۷۱۹۹	۲۷۲۱۳	۲۷۲۱۰	۲۷۲۰۶
۲۷۲۱۱	۲۷۲۰۵	۲۷۲۰۰	۲۷۲۱۲
۲۷۲۰۲	۲۷۲۰۸	۲۷۲۱۵	۲۷۲۰۱
۲۷۲۱۲	۲۷۲۱۳	۲۷۲۰۳	۲۷۲۰۹

سورۃ فتح رمضان شریف کا چاند دیکھ کر اس

سورت کو تین بار پڑھنا باعثِ شادگی رزق ہے، جو شخص جنگ کے وقت

اس کے نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو محفوظ رہے، کشتی یا جہاز وغیرہ میں سوار ہوتے وقت پڑھنے سے ہلاکت وغیرہ سے محفوظ رہے۔

سورۃ الرحمن ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، قرآن پاک کی زینت سورۃ الرحمن ہے، آنکھ کے درد

صفحہ ۱۰۲ تا ۱۱۲

۳۰۲۹۶	۳۰۳۰۹	۳۰۳۰۶	۳۰۳۰۳
۳۰۳۰۷	۳۰۳۰۲	۳۰۲۹۷	۳۰۳۰۸
۳۰۳۰۱	۳۰۳۰۴	۳۰۳۱۱	۳۰۲۹۸
۳۰۳۰۱	۳۰۲۹۹	۳۰۳۰۰	۳۰۳۰۵

طحال کے مریض پر گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے مرض سے افاقت ہوتا ہے، روزانہ تلاوت کرنے والے کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کے

طرح منور ہوگا۔ اس سُوْرۃ مبارکہ کا نقش لکھ کر پانی سے دھو کر گھر کی دیواروں پر چھڑکنے سے مُوَذی جانور بھاگ جائیں گے۔

سُوْرۃ واقعة صفحہ ۱۱۳ تا ۱۲۳
سُوْرۃ واقعة کو سُوْرۃ الغنار بھی کہا گیا ہے، رات کو سونے سے قبل اس سُوْرۃ مبارکہ کی تلاوت کرنے

۲۵۷۳۱	۲۵۷۳۲	۲۵۷۳۴	۲۵۷۳۳
۲۵۷۳۶	۲۵۷۳۲	۲۵۷۳۰	۲۵۷۳۵
۲۵۷۳۵	۲۵۷۳۹	۲۵۷۳۲	۲۵۷۳۹
۲۵۷۳۳	۲۵۷۳۸	۲۵۷۳۶	۲۵۷۳۸

والاشخص انشاء اللہ العزیز
کبھی بھی فاقہ کا شکار نہ ہوگا،
روزانہ پڑھنے والا شخص غنی ہو
جاتا ہے۔ اس سُوْرۃ مبارکہ کا
نقش لکھ کر باندھنے سے
ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے۔

صُوْرۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سُوْرۃ واقعة کو خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی یاد کراؤ۔

سُوْرۃ جمعہ صفحہ ۱۲۲ تا ۱۲۸
اگر میاں بیوی میں نا اتفاق رہتی ہو تو دونوں میں سے کوئی
اول و آخر دُرُودِ ابراہیمی گیارہ بار جمعہ کے روز فجر کی نماز

کے بعد تین بار پڑھ کر دعا مانگے اور ایسے سات جمعہ تک کرے، ایسا کرنے سے
نفاق دور ہوگا، محبت بڑھے گی، نیز جو شخص اچھی طرح کلام نہ کر سکتا ہو اس کے
ورد سے اس کی زبان درست ہو جائے گی۔

سُورَةُ التَّعَايُنِ

سُورَةُ التَّعَايُنِ
کویانی پر

صفحہ ۱۲۹ تا ۱۳۵

۱۹۹۳۵	۱۹۹۳۸	۱۹۹۴۱	۱۹۹۴۴
۱۹۹۴۰	۱۹۹۴۸	۱۹۹۳۴	۱۹۹۳۹
۱۹۹۲۹	۱۹۹۴۳	۱۹۹۳۶	۱۹۹۳۳
۱۹۹۳۷	۱۹۹۳۲	۱۹۹۳۰	۱۹۹۴۲

دم کر کے مکان کے در و دیوار
پر چھڑکنے سے طاعون، ہیضہ
اور آسب وغیرہ کے لیے
مفید بتایا جاتا ہے، اگر کوئی اس

کو پڑھ کر کسی ظالم کے پاس جاوے تو اس کے ظلم کے شر سے محفوظ رہے۔ اس سُورَةُ
مبارکہ کا نقش مکرم یہ ہے:-

سُورَةُ الْمَلِكِ | سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو
صفحہ ۱۳۴ تا ۱۴۲ سوتے وقت سُورَةُ الْمَلِكِ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے،

۳۳۱۹۹	۳۳۰۹۴	۳۳۲۰۱
۳۳۲۰۰	۳۳۱۹۸	۳۳۱۹۶
۳۳۱۹۵	۳۳۲۰۲	۳۳۱۹۷

جو شخص عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت
اس سُورت کی تلاوت روزانہ کرے گا وہ
انشاء اللہ العزیز قبر کے عذاب سے محفوظ
رہے گا، مغفرت نصیب ہوگی، سکرات
سے امن پائے گا، مقروض قرض سے

نجات پائے گا، رویت ہلال کے وقت تلاوت کرنے والا سارا مہینہ نہایت
آرام سے بسر کرے گا۔

آشوبِ چشم کے لیے روزانہ تین روز متواتر اس سُورت کو پڑھ کر دم کرنا بھی
مفید ہے، اس کا نقش بہر مطلب برآری کے لیے مفید ہے۔

سُورَةُ نُوحٍ

۱۸۵۷۸	۱۸۵۸۱	۱۸۵۸۲	۱۸۵۷۱
۱۸۵۸۳	۱۸۵۷۲	۱۸۵۷۷	۱۸۵۸۲
۱۸۵۷۳	۱۸۵۷۶	۱۸۵۷۹	۱۸۵۸۶
۱۸۵۸۰	۱۸۵۷۵	۱۸۵۷۲	۱۸۵۸۵

صفحہ ۱۲۵ تا ۱۵۱ ناممکن ہو،

تو سُوْرَةُ نُوحٍ کو ایک ہزار بار پڑھیں یا بہت سے آدمی جن کی تعداد طاق ہو ایک ہی جلسہ میں بیٹھ کر ختم کریں، دشمن ہلاک ہو جائے گا، اگر

اس کا نقش اپنے پاس رکھے تو ہر قسم کے رنج و الم سے نجات پائے، نیز اولاد اور بارش کے لیے بھی یہ سورت مفید ہے۔

سُورَةُ جِنِّ

۲۰۲۱۲	۲۰۲۰۷	۲۰۲۱۲
۲۰۲۱۳	۲۰۲۱۱	۲۰۲۰۹
۲۰۲۰۸	۲۰۲۱۵	۲۰۲۱۰

صفحہ ۱۵۲ تا ۱۵۹ آسب زدہ کو سات روز تک

روزانہ سات بار یہ سُوْرَةُ مبارکہ پڑھ کر دم کرنے سے آسب بھاگ جائے گا، سات سو بار پڑھنے سے جن پیری قابو میں

آجائے، اس کا نقش بھی دفع آسب اور قید سے رہائی کے لیے مفید ہے۔

سُورَةُ مَرْثَلٍ

۲۲۸۲۳	۲۲۸۱۸	۲۲۸۲۵
۲۲۸۲۲	۲۲۸۲۲	۲۲۸۲۰
۲۲۸۱۹	۲۲۸۲۶	۲۲۸۲۱

صفحہ ۱۶۰ تا ۱۶۵ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی زیارت سے شرف یاب ہو، زبان بندی اور بیخ بندی کے لیے نہایت ہی مجرب ہے اگر یہ سُوْرَةُ مبارکہ پڑھ کر حاکم کے سامنے

جائے تو حاکم مہربان ہو کشتائش رزق کے لیے ہر روز سات مرتبہ پڑھے،
سورۃ مزمل پڑھنے والے پر عذاب نہیں ہوتا، اس پر دوزخ حرام ہے۔

۷۸۶

۱۷۵۵۳	۱۷۵۵۲۸	۱۷۵۵۵
۱۷۵۵۲	۱۷۵۵۲	۱۷۵۵۰
۱۷۵۲۹	۱۷۵۵۴	۱۷۵۵۱

سورۃ نبا
صفحہ ۱۶۶ تا ۱۷۱
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کا ارشاد پاک
ہے کہ جس شخص نے سورۃ نبا پڑھی ہے،
قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس شخص کو

شراب پھور پلانے گا۔ ظہر کے بعد تلاوت کرنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے
اور نماز عصر کے بعد اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنے سے بصارت زائل نہ ہوگی۔

۷۸۶

۲۲۲۱	۲۲۲۲	۲۲۲۷	۲۲۳۳
۲۲۲۶	۲۲۳۲	۲۲۲۰	۲۲۳۵
۲۲۳۵	۲۲۲۶	۲۲۲۲	۲۲۳۹
۲۲۲۳	۲۲۳۸	۲۲۳۶	۲۲۲۸

سورۃ طارق
صفحہ ۱۷۲، ۱۷۳
دفع آسب کے لیے
سورۃ طارق تین بار پڑھنے سے
آسب جاتا رہتا ہے، نیز
اگر کوئی شخص بھاگ گیا ہو تو

اس سورۃ مبارک کے نقشے کو لکھ کر اپنے پاس رکھے۔

سورۃ فجر
صفحہ ۱۷۲ تا ۱۷۸
صبح کے وقت سورۃ فجر کی تلاوت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ
تمام دن خوشی سے گزارے گا۔

سورۃ کافرون
صفحہ ۱۷۹
آسب اور جمیع بلیات کے لیے سورۃ کافرون سودھ
پڑھنے سے ہر قسم کی تکلیف سے نجات ہوگی۔

سُورَةُ اخْلَاصِ

صفحہ ۱۸۰

سُورَةُ اخْلَاصِ
تین بار پڑھنےسے ختم قرآن شریف کا ثواب ملتا ہے نقش گلے میں
باندھنے سے بچہ تمام آفات سے محفوظ ہے۔

۷۸۶

۳۳۵	۳۳۰	۳۳۷
۳۳۶	۳۳۲	۳۳۲
۳۳۱	۳۳۸	۳۳۳

بلا ناغہ تلاوت کرنے والا تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ ہے
گا۔ آسیب زدہ پر پڑھ کر دم کرنے سے آرام ہوگا۔

سُورَةُ فَلَقِ

صفحہ ۱۸۱

۷۸۶

۱۳۲۳	۱۳۲۷	۱۳۳۰	۱۳۱۶
۱۳۲۹	۱۳۱۷	۱۳۲۲	۱۳۲۸
۱۳۱۸	۱۳۳۲	۱۳۲۵	۱۳۲۱
۱۳۲۶	۱۳۳۰	۱۳۱۹	۱۳۳۱

سُورَةُ وَالنَّاسِ
پڑھ کر اپنے

سُورَةُ النَّاسِ

صفحہ ۱۸۲

اوپر دم کرنے سے سحر آسیب
اور ہر بلا سے محفوظ ہے اس
سُورَةُ مَبَارَكَةٍ کا نقش لکھ کر

اپنے پاس رکھنے سے تمام پریشانیوں دور ہوں۔

حدیث شریف میں ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں

سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی شریف ہے

آیَةُ الْكُرْسِيِّ

صفحہ ۱۸۳

سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرنے سے رات بھر شیاطین قریب

نہیں آسکتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبانی ہوتی ہے۔ اکثر اکابر مشائخ سلف

صالحین فرماتے ہیں کہ اس میں اسمِ اعظم شریف الْحَيُّ الْقَيُّومُ ہے۔

اسما اللہ الحسنى | یہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام ہیں جو کوئی ان کو یاد کرے روزانہ پڑھا

کرتے گا انشاء اللہ العزیز جنت میں داخل ہوگا۔

اسما اللہ الحسنى

صفحہ ۱۸۵ تا ۱۸۸

اسما نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم
صفحہ ۱۸۹ تا ۱۹۲

یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارک ہیں
پڑھتے وقت ہر مقدس نام سے پہلے سیدنا اور بعد
میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھے۔ ہر شب با وضو

ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے با ادب و شوق سے پڑھنے
سے انشاء اللہ تعالیٰ خواب میں سرکارِ دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی زیارت سے ضرور مشرف ہوگا۔

اسما السبع

صفحہ ۱۹۳ تا ۱۹۷

جو شخص ان اسماء مبارک کے معانی و مطالب سمجھ کر پڑھے
اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو، تو وہ ایک انسانِ کامل

کا نمونہ بن جائے اور برکاتِ الہیہ سے مستفید ہو۔

دُرودِ اکبر

صفحہ ۱۹۸ تا ۲۲۲

بزرگانِ سلف سے روایت ہے کہ خلوص نیت اور
صدق دل سے اس دُرود شریف کو پڑھنے والا شخص حضور

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوگا۔

دُرودِ لکھی

صفحہ ۲۲۳ تا ۲۵۰

قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت اور فرشتے حضور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دُرود بھیجتے ہیں اور

مسلمانوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دُرود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اس دُرود شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا دُرود و سلام

عرض کیا گیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقینی توقع ہے کہ اس کے پڑھنے

والے کو لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔

دُرودِ نوح

صفحہ ۲۵۱ تا ۲۵۴

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کے آرزو مند کو چاہیے کہ
عروجِ ماہِ شبِ جمعہ بعد نمازِ عشاء تک صاف لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر

اس درود کو با وضو (۷۱) بار پڑھ کر سوجائے اور گیارہ شب ہی عمل کرے، انشاء اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہو گا۔ افلاس رزق، ظلم کے ظلم، دشمنوں کے شر دور کرنے اور فراخی رزق کے لیے اس کا ایک چلہ شب کے وقت اتالیس مرتبہ پڑھنا مفید ہے۔

بمقت مہیکل
صفحہ ۳۲۲ تا ۳۳۹

جو کوئی روزانہ اس کا ورد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو اور اس کے والدین کو دوزخ کے عذاب سے آزاد فرمائے، جو کوئی اس کو اپنے پاس رکھے گا وہ بانی امراض سے محفوظ رہے گا، اس پر سکرات کی تکلیف آسان ہوگی، اس کے علاوہ اور بہت سے فوائد ہیں، نیز تمام آفات سے محفوظ رہے گا، اگر مفروض ہو گا تو قرضے سے بھی سبکدوش ہو جائے گا۔

شش فصل
صفحہ ۳۲۰ تا ۳۲۳

جو کوئی روزانہ شب کے وقت اس کو پڑھے گا انشاء اللہ رحمت خداوندی سے نوازا جائے گا اور تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔

دُعائے گنج العرش
صفحہ ۳۲۶ تا ۳۵۹

اس مبارک دعا کا پڑھنا موجب ثواب دارین و حصول منافع دین و دنیا، وسعت کسادی رزق اور حل مشکلات ہے، لا علاج مریض اور سحر مریض پر پڑھ کر دم کرنے سے انشاء اللہ العزیز صحت ہوگی۔

دُعائے امن
صفحہ ۳۲۲

جو کوئی سال میں ایک دفعہ دعائے امن کو پڑھے گا تو انشاء اللہ العزیز سال بھر آسیب وغیرہ سے امن میں رہے گا۔

دُعائے جمیلہ
صفحہ ۳۶۰ تا ۳۶۲

دُعائے جمیلہ کو پڑھنا باعث بخشش گناہ و حصول ثواب ہے، جو شخص فرض نمازوں اور بالخصوص تہجد کی نماز کے بعد دعائے جمیلہ پڑھے گا، تہجد و حساب ثواب پائے گا۔

دُعائے عکاشہ

صفحہ ۳۶۵ تا ۳۷۲

اس دعا کے ذریعہ ایک گنہگار بندہ اپنی نامعلوم کوتاہیوں پر تائب ہو رہا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے ہوئے سید الاستغفار کے ذریعہ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کر رہا ہے، کیا عجب کہ اس وقت دریائے رحمت موجزن ہو اور ان کی برکتوں سے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔

عہد نامہ

صفحہ ۲۷۵، ۲۷۶

عہد نامے کے پڑھنے سے انشاء اللہ ایمان کامل اور تازہ ہوگا۔ ہر قسم کی جائز حاجات پوری ہوں گی اور امراض و مصائب سے نجات ملے گی۔

دُعائے حلیب

صفحہ ۳۹۲ تا ۳۹۳

یہ دعا عاشق رسول، مؤذن نبی حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے جو نہایت مفید اور متبرک مانی گئی ہے۔

مسیبات عشر

صفحہ ۲۰۲ تا ۲۱۱

مسیبات عشر، درود مستغاث، درود کبریت احمد وغیرہ صبح کی نماز کے بعد کے وظائف ہیں مقصد یہ انسان کے اوقات ذکر الہی سے خالی نہ ہوں جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے نیز واضح رہے کہ کسب حلال بعض نوافل سے افضل ہے۔

اوراد الاسبوع

صفحہ ۲۱۲ تا ۲۲۵

یہ اوراد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے منسوب ہیں اور ہفتہ کے سات دنوں پر تقسیم کیے گئے ہیں روزانہ کسی فرض نماز کے بعد درود شریف پڑھ کر اس دن کا ورد پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ دنیوی و آخروی فوائد حاصل ہوں گے فراخی رزق، موت کی سختی سے نجات اور قبر میں راحت ملے گی۔



سُورَةُ الْكَهْفِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ فَايَةٌ وَعَشْرًا آيَاتٍ وَإِثْنَا عَشَرَ رُكُوعًا

سورہ کہف مکہ میں نازل ہوئی اس کی ایک سو دس آیتیں اور بارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيَّ عَبْدِهِ

سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر

الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝۱

کتاب اتاری اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی عدل والی

لِيُنذِرَ رِبَا سَآءِذٍ مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ

کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور

الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ

ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝۲ مَا كَثِيرٌ فِيهِ

ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ

أَبَدًا ۝۳ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

رہیں گے اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی

وَلَدًا ۞ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا

بیچہ بنایا اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان

لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ

کے باپ دادا کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے منہ

مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۞ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞

سے نکلتا ہے نرا جھوٹ کہہ رہے ہیں

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا عَلَىٰ آثَارِهِمْ

تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کے پیچھے

إِنَّ لَكُمْ يَوْمًا مِّنْهُمُ الَّذِي إِذْ هَبْتَ رَسْمًا ۞

اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تم سے

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا

بے شک ہم نے زمین کا سنگھار کیا جو کچھ

لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا

اس پر ہے کہ انھیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں اور بیشک

لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞

جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کر چھوڑیں گے

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ

کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے

كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۙ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ

ہماری ایک عجیب نشانی تھی جب ان نوجوانوں نے

إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ

غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے

رَحْمَةً وَهَيُّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۙ

رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ

تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس

عَدَدًا ۙ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ آيَةَ الْكُرْبِيِّينَ

تھپکا پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے

أَخْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمدًا ۙ نَحْنُ نَقُصُّ

ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے ہم ان کا ٹھیک ٹھیک

عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ

یہاں تمہیں سنائیں وہ کچھ جوان تھے

أَمْنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى وَصَلِّ وَسَلِّمْ ۝۱۳

کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور

رَبُّنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا

ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ

وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی معبود کو

دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ شَطَطًا ۝۱۴

نہ پوچھیں گے ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی

هُوَ آءِ قَوْمَنَا اَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً

یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں

لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ فَمَنْ

کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند تو

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝۱۵

اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے

وَإِذَا عَزَلْتَهُمْ هُمْ وَإِذَا عَزَلْتَهُمْ هُمْ وَإِذَا عَزَلْتَهُمْ هُمْ

اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں

إِلَّا اللَّهُ فَأُوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْكُمْ

سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لیے

رَبِّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهِئْ لَكُمْ مِنْ

اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے

أَمْرِكُمْ مَرْفُوعًا ۱۶ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ

سامان بنا دے گا اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا

تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ

ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف بچ جاتا ہے اور

إِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ

جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے

وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكُمْ آيَاتُ اللَّهِ

حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ

جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو

فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِدًا ۱۷ وَنَحْسِبُهُمْ

ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے اور تم انہیں

أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ

جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی داہنی

الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ قَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ

بائیں کر وٹیں بدلتے ہیں اور ان کا کتا

بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِاطِعَتِ

اپنی کلاٹیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر اے سُننے والے

عَلَيْهِمْ لَوْلِيَّتٌ مِنْهُمْ فَارَأَوْنَ كَمَلَتْ

اگر تو انھیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پلٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے

مِنْهُمْ رُجُوبًا ۝۱۵ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا لَبِيسَ لَوِ

بیبیت میں بھر جائے اور لوی نہیں ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک

بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِيسٌ

دوسرے سے احوال پوچھیں ان میں ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے

قَالُوا لَبِيسًا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ

کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم دوسرے بولے تمہارا رب

أَعْلَمُ بِمَا لَبِيسْتُمْ فَاغَشَاكُمْ لَوْ رَفِقُوا

خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے تو اپنے میں سے ایک کو یہ جان دی لے کر

هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى

شہر میں بھیجو پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا

طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ

کھانا زیادہ مستحضر ہے کہ تمہارے لیے اس میں کھانے کو لائے اور چاہیے کہ

وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝۱۹ ۝ اِنْتِهْرَانُ

نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے بے شک اگر وہ

يُظْهِرُوا عَلَيْكُمْ رِجْسَكُمْ وَ يُعِيدُكُمْ

تمہیں جان لین گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں

فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝۲۰ ۝ وَكَذَلِكَ

پھیر لیں گے اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا اور اسی طرح ہم

أَعْتَدْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ

نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ

حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذ يَتَنَزَّعُونَ

بجائے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں جب وہ لوگ ان کے معاملہ

بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا

ہیں تاہم جھگڑنے والے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ط قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا

ان کا رب انھیں خوب جانتا ہے وہ بولے جو اس کام میں غالب

عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۲۱

رہے تھے قسم ہے کہ اُن پر مسجد بنائیں گے

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ

اب کہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہیں گے

خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَبًا بِالْغَيْبِ

پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا بے دیکھے الاوتکا بات

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ

اور کچھ کہیں گے سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا تم فرماؤ

رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا

میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انھیں نہیں جانتے مگر

قَلِيلٌ ۚ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ۚ

نھوڑے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر

تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۲۲ وَلَا تَقُولَنَّ

ہو چکی اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو اور ہرگز کسی

لِسْتَأْتِيَّ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۝ (۳۳) إِلَّا أَنْ

بات کو نہ کہتا کہ میں کل یہ کر دوں گا مگر یہ کہ

يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ

اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کر کہ جب تو بھول جائے اور یوں کہو

عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا

کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی کی راہ

رَشْدًا ۝ (۳۴) وَلَيَسِّرْ لِي فَهْيَ مِثْلُ مَاءٍ

دکھائے اور وہ اپنے غار میں تین سو برس

سِنِينَ وَأَرَادُ أَنْ سَعَى ۝ (۳۵) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ

بظہری نورا اوپر تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے

بِمَا لَيْسَ بِأَعْيُنٍ رَأَتْ وَلَا يَسْمَعُ سَمْعًا وَلَا يُشْعِرُ شَعْرًا ۝ (۳۶) وَهُوَ

وہ جتنا بظہری اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے سب عیب

أَبْصَرُ بِهِ وَأَسْمَعُ مَا لَمْ يَمْسُحْ بِوَجْهِهِ مِنْ

وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں

وَلَا يُلْقِي سُلْطَانًا لِشَيْءٍ إِلَّا فِي حُكْمِهِ ۝ (۳۷) وَإِلَىٰ

اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا

وَائْتَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ^ط

اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہیں وحی ہوئی

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ^{قف} وَلَكِنْ تَجِدُ مِنْ دُونِهِ

اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ

مُتَّجِدًا ۲۷) وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ

نہ پاؤ گے اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ^و يُرِيدُونَ

صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری

وَجْهَهُ ^و وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ^و تُرِيدُ

آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پیر نہ بٹریں کیا تم دنیا کی

زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ^و وَلَا تَطْعَمَنْ

زندگانی کا سنگھار چاہو گے اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا

أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا ^و وَاتَّبِعْ هَوَاهُ

دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا

وَكَانَ أَمْرُهُ ^و قَرِيبًا ۲۸) وَقِيلَ الْحَقُّ ^و مِنْ رَبِّكُمْ

اور اس کا کام حد سے گزر گیا اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ

بیشک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں

سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ

نہیں گھیر لیں گی اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی

كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِسُورِ الشَّرَابِ

اس پانی سے کہ چرخ دیتے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ انکے منہ بھونچ لگا کہا ہی سُرَابِ پینا ہے

وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝۲۹ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ

اور دوزخ کہا ہی بڑی پھرنے کی جگہ بیشک جو ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ

بیک کام کئے ہم ان کے نیک صنائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے

عَمَلًا ۝۳۰ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي

ہوں ان کے لئے بسنے کے باغ ہیں ان کے نیچے ندیاں

مِنْ تَحْتِهَا أُرْدَانٌ يُجْرُونَ فِيهَا مِنْ

نہیں وہ ان میں سے اس میں سونے کے

اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا

کنگن پہننے جائیں گے اور سبز کپڑے

مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّكَيَّنٍ فِيهَا

کریب اور قناویز کے پہنیں گے وہاں تختوں پر

عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ

تکیہ لگاتے کیا ہی اچھا ثواب اور جنت کیا ہی اچھی آرام

مُرْتَفَعًا ۳۱) وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ

کی جگہ اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو

جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ

کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیئے

وَحَفَفْتُهُمَا بِخَلٍِّ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۳۲) ط

اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی

كُنَّا الْجَنَّتَيْنِ اِتْنِ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم

دونوں باغ اپنے پھل لاتے اور اس میں کچھ کمی

مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلْمًا نَّهْرًا ۳۳) لا

نہ دی اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی

وَكَانَ لَهُ شَرٌّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ

اور وہ پہن رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ

يُجَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ

اس سے رُڈ و بدل کرتا تھا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ

نَفْرًا ۳۳) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ

زور رکھتا ہوں اپنے باغ میں گنا اور اپنی جان پر ظلم

لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ

کرتا ہوا بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ ابھی فنا

أَبَدًا ۳۵) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً لَا أُرَى

ہو اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو اور

لِيَنْزِلَ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي خَيْرٌ

اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر

مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۳۶) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ

بیلٹنے کی جگہ یاؤں گا اس کے ساتھی نے اس سے اُلٹ پھر

يُجَاوِرُهُ أَكْفَرْتَنِي يَا الَّذِي خَلَقَكَ مِنْ

کرتے ہوئے جواب دیا کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے

مِرَابٍ ثَمَرٍ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۝٣٧ ط

مٹی سے بنایا پھر مجھے ٹھیک مرد کیا

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي ۚ

لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں

أَحَدًا ۝٣٨ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ

کرتا ہوں اور کیوں نہ ہو کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ

جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا اگر تو مجھے

أَنَا أَقْلٌ مِنْكَ مَا لَوْ وُلَدًا ۝٣٩ فَعَسَىٰ

اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ

رَبِّيَ أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَ

میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے اور تیرے باغ

يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ

پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ بٹ پر میدان

صَعِيدًا زَلْفًا ۝٤٠ أَوْ يُصْبِحَ مَاءً غُورًا

ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے

فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ﴿۴۱﴾ وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ

پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے اور اس کے پھیل گھبرائے گئے

فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا

تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی

وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ

اور وہ اپنی ٹیٹیوں پر گر رہا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے

إِلَيْتِي لَمَّا شَرَكْتُ رَبِّي أَحَدًا ﴿۴۲﴾ وَلَمْ

اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور اس

يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی

وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿۴۳﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ

نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے

لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقَابًا ﴿۴۴﴾

اللہ کا ہے اس کا ثواب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سے بھلا

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا

اور ان کے سامنے زندگی کی دنیا کی کہاوت بیان کرو جسے ایک بانی

أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ

ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب

الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ

زمین کا سبزہ گھٹا ہو کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑائیں

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقَدِّرًا ۝۴۵

اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سکھار ہے

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝۴۶ وَيَوْمَ نَسِيرُ الْجِبَالَ

بہتر اور وہ امید میں سے بھلی اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے

وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ

اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو

نُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝۴۷ وَعَرِضُوا عَلَى رَبِّكَ

ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے اور سب تمہارے رب کے حضور

صَفَا لَقَدْ جِئْتُونَنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ

پرا بانڈھے پیش ہونگے بیشک تم ہمارے پاس ویسے ہی آتے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار

مَرَّةٍ زَيْلٌ زَعْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ

بنایا تھا بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی

مَوْعِدًا ۴۸) وَوَضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے

مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ

کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہونگے اور کہیں گے ہائے خرابی ہماری اس

هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً

نوشتہ کو کیا ہوا نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا جسے

إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

گنہ نہ لیا ہو اور اپنا سب کیا انھوں نے سامنے پایا

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۴۹) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو

اسْجُدُوا لِلْآدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط كَانَ

فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے قوم

مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ

جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا بھلا کیا اسے

وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ

اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ ہمارے

عَدُوٌّ يَبْغُ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝۵۰ مَا

دشمن ہیں ظالموں کو کیا ہی بُرا بدل ملا نہ میں

أَشْهَدُ تَهُمُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

تے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انھیں سامنے بٹھا لیا تھا

وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ تُخَذَلُونَ

نہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ میری شان کہ گمراہ کرنے

الْمُضِلِّينَ عَصُدًا ۝۵۱ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا

والوں کو بازو بناؤں اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے

شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ

شریکوں کو جو تم گمان کرنے تھے تو انھیں پکاریں گے وہ

يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَوْبِقًا ۝۵۲

انھیں جواب نہ دیں گے اور ہم انکے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُهَا

اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے

وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۚ وَقَدْ صَرَّفْنَا

اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے اور بیشک ہم نے

فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ

لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَتَشْيُّ جَدَلًا ۚ وَمَا

اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے اور

مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ

آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب

الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ

ہدایت انکے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے مگر یہ کہ ان پر

سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۚ

انگلوں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَ

اور ہم ہر رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور

مُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا

ڈرسانے والے اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا

جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹا دیں اور انھوں نے میری

آيَتِي وَمَا أَنْذَرُوا هُزُوعًا ۝۵۶ وَمَنْ أَظْلَمُ

آیتوں کی جو ڈرا نہیں سنانے گئے تھے ان کی ہنسی بنالی اور اس سے بڑھ کر ظالم

مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ

وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ

ان سے منہ پھیر لے اور اسکے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اُسے بھول جاتے ہم نے ان کے

قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ

دلوں پر غلاف کر دیئے ہیں کہ قرآن نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں

وَقُرْآنًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ

گرائی اور اگر تم انھیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی

يَهْتَدُوا وَإِذَا ابْتَدَأْنَا ۝۵۷ وَرَبِّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ط

ہرگز کبھی راہ نہ یابیں گے اور تمہارا رب بخشنے والا مہر والا ہے

لَوِیُوا اخِذْهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَجَل لَّهُمْ

اگر وہ انھیں ان کے کئے پر پکڑتا تو جلد ان پر

الْعَذَابِ بَل لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ یَجِدُوا مِنْ

عذاب بھیجتا بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی

دُونَهُ مَوْیِلًا ﴿۵۸﴾ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اَهْلَکْتَهُمْ

پناہ نہ پائیں گے اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں

لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِبِہِمْ مَوْعِدًا ﴿۵۹﴾

جب انھوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ کر رکھا تھا

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنِهِ لَآ اَبْرَحُ حَتَّىٰ

اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک

اَبْلُغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضَىٰ حَقْبًا ﴿۶۰﴾

وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں یا قرون چلا جاؤں

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَیْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا

پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے

فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿۶۱﴾ فَلَمَّا

اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سُرنگ بنائی پھر جب

جَاوَزَا قَالَ لِفَتْنِهِ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ

وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ

لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٤٢﴾ قَالَ

بے شک ہمیں اپنے سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ لولا

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي

دیکھتے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو

نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا أَنْسِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ

بیشک میں پھولی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں

أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ

اس کا مذکور کروں اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی

عَجَبًا ﴿٤٣﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ وَارْتَدَّا

اجنباً ہے۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے تو پیچھے پلٹے

عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٤٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا

اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے

مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۖ قَالَ لَهُ

اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا اس سے موسیٰ نے کہا

مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ

کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے

مِمَّا عَلَّمْتَنِي رُشْدًا ۖ قَالَ إِنَّكَ لَنْ

نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی کہا آپ میرے ساتھ

تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ

ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیونکر صبر

عَلَىٰ مَا لَمْ يَحِطْ بِهِ خَيْرًا ۖ قَالَ سَتَجِدُنِي

کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں کہا عنقریب اللہ چاہے تو

إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ ۖ

تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف کروں گا

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ

کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا

حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ فَإِن طَلَقَا

جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں اب دونوں چلے

حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا

یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندہ نے اسے پیر ڈالا

قَالَ أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ

موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے پیرا کہ اس کے

جِئْتُمْ شَيْئًا مَّرًا ۝۴۱ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ

سواروں کو ڈیادو بیشک تم نے بُری بات کی کہا میں نہ کہتا تھا

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝۴۲ قَالَ

کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے کہا

لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي

مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں

مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝۴۳ فَانْطَلَقَا وَقَفَّةً حَتَّىٰ

مشکل نہ ڈالو پھر دونوں چلے یہاں تک کہ

إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُمَا

جب ایک لڑکا ملا اس بندہ نے اسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا کیا تم نے

نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُمْ

ایک ستمگری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی بیشک تم نے

ثُمَّ بَايَعَكَ ۙ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ

بہت بُری بات کی کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۙ قَالَ إِنْ

ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے کہا اس نے بعد میں

سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلا تَصِحِبْنِي

تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا

قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۙ فَانطَلَقَا

بے شک میری طرف سے تمہارا عُذر پورا ہو چکا پھر دونوں چلے

حَتَّى إِذَا آتَيْتُمَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا

یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دوہتھانوں

أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا

سے کھانا مانگا انھوں نے انھیں دعوت دینی قبول نہ کی پھر دونوں

فِيهَا جَدَارًا مُرِيدًا أَنْ يُنْقِضَا

نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا جائی ہے اس بندہ

فَأَقَامَهُمَا قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ

نے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری

أَجْرًا ۴۷ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ

لے لیتے کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے

سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ

اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا جن پر آپ

عَلَيْهِ صَبِيرًا ۴۸ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ

سے صبر نہ ہو سکا وہ جو کشتی تھی وہ کچھ

لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْنَا

محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ

أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ

اسے عیب دار کر دوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ

يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۴۹ وَأَمَّا

ہر ثابت کشتی زبردستی پھین لیتا اور وہ جو

الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا

لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ

أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۵۰ فَأَرَدْنَا

وہ ان کو سرکشی اور کفر پر پڑھاوے تو ہم نے چاہا کہ

أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً

ان دونوں کا رتبہ اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ

وَأَقْرَبَ رَحِمًا ۝۸۱ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ

مہربانی میں قریب عطا کرے رہی وہ دیوار وہ

لِلْعَالَمِينَ يَتِيمِينَ فِي الْمَدِينَةِ

شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا

اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ

صَالِحًا فَإِذَا دَرَأَكَ أَنْ يُبْلِغَا أَشَدَّهُمَا

نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو

وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

بہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ

اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا یہ پھر ہے ان باتوں کا

مَا لَمْ نَسْطِرْ عَلَيْهِ صِدْرًا ۝۸۲ وَيَسْأَلُونَكَ

جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا اور تم سے ذوالقرنین

عَنْ ذِي الْقُرَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ

کو یہ لو پڑھتے ہیں تم فرمائو میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر

مِنْهُ ذِكْرًا ۸۴ إِنَّا مَكْنَالُهُ فِي الْأَرْضِ

سناتا ہوں بیشک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا

وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبِيًّا ۸۵ فَاتَّبِعْ

اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا تو وہ ایک سامان

سَبِيًّا ۸۶ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ

کے پیچھے چلا .. یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۸۷

اسے ایک سیاہ کچھڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور

وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقُرَيْنِ

وہاں ایک قوم ملی ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین

إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ

یا تو تو انہیں عذاب دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار

حُسْنًا ۸۸ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ

کریے عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم

نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ

عنقریب سزا دیں گے پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا وہ

عَذَابًا نُّكَرًا ۸۷ وَأَمَّا مَنْ أَمِنَ وَ

اسے بُری مار دے گا اور جو ایمان لایا اور نیک

عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ

کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے

وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۸۸ ثُمَّ

اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے پھر

اتَّبِعْ سَبِيلًا ۸۹ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ

ایک سامان کے پیچھے جلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی

الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ

جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے

يَجْعَلُ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا ۹۰ كَذَلِكَ

ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی بات یہی ہے

وَقَدْ أَحْطَيْنَا بِمَا كَدَيْتُمْ خَيْرًا ۹۱ ثُمَّ

اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے پھر

اتَّبِعْ سَبِيلًا ۙ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ

ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جیب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا

وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ

ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پاؤ گے کہ کوئی بات سمجھتے

يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۙ قَالُوا يَا زُقَيْنِ

معلوم نہ ہوتے تھے انھوں نے کہا اے ذوالقرنین

إِن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي

بے شک یا جوج و ما جوج زمین میں فساد

الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ

مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں

أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۗ قَالَ

اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں کہا

مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ

وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے کرو

أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۗ أَلَمْ يَكُنْ

میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں میرے پاس

زُبْرًا حَدِيدًا حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ

لوہے کے تختے لاؤ۔ یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے

الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا

کناروں کے برابر کر دی کہا دھونکو۔ یہاں تک کہ جب

جَعَلَهُ نَارًا لَّيْمًا قَالَ انثُوْنِي اُفْرِغْ عَلَيْهِ

اُسے آگ کر دیا کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبہ انڈیل

قَطْرًا ﴿٩٤﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا اَنْ يُّظْهِرُوْهُ

دوں تو یا جوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ

وَمَا اسْتَطَاعُوا اِلَيْهِ نَقْبًا ﴿٩٥﴾ قَالَ هٰذَا

کے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے کہا یہ میرے

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّيْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ

رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ

جَعَلَهُ دَكَاةً وَّاَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٦﴾

آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٍ فِي بَعْضٍ

اور اس دن ہم انھیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر

وَتُفِخَ فِي الصُّورِ فَيَجْعَلُهُمُ جَمْعًا ۙ

ریلا آوے گا اور صور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے

وَعَرْضًا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ

اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے

عَرْضًا ۙ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي

لائیں گے وہ جن کی آنکھوں پر میری فریاد

غَطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ

سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے

سَمْعًا ۙ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن

تھے تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے

يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۙ

بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے

إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۙ

بے شک ہم نے کافروں کی جہانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۙ

تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ

ان کے جن کی ساری کوشش دُنیا کی زندگی

الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

میں مگم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر

صُعَاً ۱۴) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ

رہے ہیں یہ لوگ جنھوں نے اپنے رب کی آیتیں اور

رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے

فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۱۵)

تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے

ذَٰلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا

یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انھوں نے کفر کیا

وَاتَّخَذُوا إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ ۱۶) وَإِن

اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی ہے شک

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ

جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے فردوس کے

لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝۱۷ خَلِيدِينَ

باغ ان کی ہمائی ہے وہ ہمیشہ ان ہی

فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝۱۸ قُلْ لَوْ كَانَ

میں رہیں گے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے تم فرما دو اگر

الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ

سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا

قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ

اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو

مَدَدًا ۝۱۹ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ

لے آئیں تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی

إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ

آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو جسے اپنے

يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

رب سے ملنے کی امید ہو اُسے چاہیے کہ نیک کام کرے

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝۲۰

اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے

سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ

سورۃ سجدہ مکہ میں نازل ہوئی اس میں تیس آیاتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ لَا رِیْبَ فِیْهِ

الحمد کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم

مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ اَمْ یَقُولُوْنَ

کی طرف سے ہے کیا کہتے ہیں ان کی بنائی

اَفْتَرٰیہٗۙ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

ہوئی ہے بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰہُمْ مِنْ نَّذِیْرٍ

سے کہ تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے

مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ یَهْتَدُوْنَ ۝ اللّٰهُ

پہلے کوئی ڈرسانے والا نہ آیا اس امید پر کہ وہ راہ پائیں اللہ

الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا

ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ

بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

ان کے بیچ میں ہے چھ دن میں بنائے پھر عرش

عَلَى الْعَرْشِ ط مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مَن

پر استوا فرمایا اس سے چھوٹ کر تمہارا کوئی

وَالِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ط اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾

جماعتی اور نہ سفارشی تو کیا تم دھیان نہیں کرتے

يُدِيرُ اَلْاَمْرَ مِّنَ السَّمَاۗءِ اِلَى الْاَرْضِ

کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک

ثُمَّ يَعْزُجُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کہ جس کی مقدار

اَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ ذٰلِكَ

ہزار برس ہے تمہاری گنتی میں یہ ہے

عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ

ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا عزت و

الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾ الَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ

رحمت والا وہ جس نے جو چیز بنائی خوب

خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝۷

بنائی اور پیدائش انسان کی ابتداء مٹی سے فرمائی

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ

پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصہ

مَاءٍ مَّهِينٍ ۝۸ ثُمَّ رَسَوْنَاهُ فِي

سے پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف

مِنْ رُوحٍ مِّنْ رُّوحِنَا وَجَعَلْنَا لَكُمْ السَّمْعَ

کی روح چھوٹی اور تمہیں کان اور آنکھیں

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا

اور دل عطا فرمائے کیا ہی تھوڑا

تَشْكُرُونَ ۝۹ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي

حق مانتے ہو اور بولے کیا جب ہم مٹی میں

الْأَرْضِ عَرَيْنًا إِنَّا لَبِئْسَ مَا كُنَّا مِن

دل جائیں گے کیا پھر نئے بنیں گے بلکہ وہ

أَشْيَاءٍ قَالُوا رَبُّنَا كَفَرُونا ۝۱۰ قُلْ يَتُوبُ

اپنے رب کے حضور جاسزی سے منکر ہیں تم فرماؤ تمہیں وفات

مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۱۱﴾ وَلَوْ تَرَىٰ

پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے اور کہیں تم دیکھو

إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ

جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں

رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا

گے اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا ہمیں پھر بھیج

نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَوْ شِئْنَا

کہ نیک کام کریں ہم کو یقین آ گیا اور اگر ہم چاہتے

لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِن حَقَّ

ہر جان کو اس کی ہدایت فرماتے مگر میری بات قرار

الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ

پاچی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳﴾ فَذُوقُوا

ان جنوں اور آدمیوں سب سے اب چکھو بدلہ

بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا

اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے ہم نے

نَسِيتُمْ وَذُقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا

تمہیں بھوڑ دیا اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ إِنَّمَا يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا

کئے کا بدلہ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا

ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدہ میں

وَاسْبِغُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ

گر جلتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی باکی

لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۵﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ

بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ان کی کروٹیں جسدا ہوتی ہیں

الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ

خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور

طَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۶﴾ فَلَا

امید کرنے اور ہمارے دیئے ہوتے سے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی

تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ

جی کو نہیں معلوم جو جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا

أَعْيُنٍ حَزَّ أَهْرِبًا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا

تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائیگا جو بے حکم ہے

لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٥﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ

یہ برابر نہیں جو لوگ ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ

اچھے کام کئے ان کے لئے بسنے کے باغ ہیں ان

نَزَّلْنَا بِهَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ

کے کاموں کے صلہ میں مہانداری رہے وہ جو بے حکم

فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ نَارُ النَّارِ كَمَا أَرَادُوا

ہیں ان کا ٹھکانا آگ ہے جب کبھی اس میں

أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعْيُدُوا فِيهَا

سے نکلنا جاہیں گے پھر اسی میں پھر دیتے جاہیں گے

وقف غفران صد وقف غفران

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي

اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے

كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنْذِيْقْتَهُمْ

تم جھٹلاتے تھے اور ضرور تم انہیں چکھائیں

مِّنَ الْعَذَابِ الَّا دُنِيَ دُونَ الْعَذَابِ

کے کچھ نزدیک کا عذاب اس بڑے عذاب سے

الَّا كِبْرُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ

یہاں سے دیکھنے والا امیر کرے کہ ابھی باز آئیں گے اور اس سے بڑھ کر ظالم

مَنْ ذَكَرَ بآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ

کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ

عَنْهَا اِنَّا مِنَّا مِنَ الْجٰرِمِيْنَ مُتَقِيْنَ ﴿٢٢﴾

پھیر لیا۔ لے شک ہم مجرموں سے بدلتے والے ہیں۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ

اور لے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے

فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهِْ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى

ملنے میں شک نہ کرو اور ہم نے

لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ

اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا اور ہم نے ان میں سے

أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ

کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا

وَكَانُوا يَا أَيُّهَا الْقَوْمُونَ ۚ إِنَّ سَرَّكَ

اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے بے شک تمہارا رب

هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ان میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بات

فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ أُولَٰئِكَ

میں اختلاف کرتے تھے اور کیا انہیں

يَهْدِي لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں

مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ

ہلاک کر دیں کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي السَّمْعِ ۚ

بے شک اس میں ضرور نشاںیاں ہیں تو کیا سنتے نہیں

أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ

اور کہا نہیں دیکھتے کہ ہم یانی بھجوتے ہیں خشک زمین

الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زُرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ

کی طرف پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کے

أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٤﴾

بیویا تے اور وہ خود کھاتے ہیں تو کیا انھیں سوچتا نہیں

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ

اور کہتے ہیں یہاں فیصلہ کب ہوگا اگر تم

صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ

سچے ہوں تم فرماؤ فیصلہ کے دن کافروں کو

الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ

ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انھیں

يُنظَرُونَ ﴿٢٦﴾ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرُ

مہلت ملے تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو

أَنْتُمْ مَدْنُورُونَ ﴿٢٧﴾

نے خشک انھیں بھی انتظار کرنا ہے

سُورَةُ يٰسٍ مَلِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَثَمَانُونَ آيَةً وَخَمْسُ رُكُوعَاتٍ

سورہ یس مکہ میں نازل ہوئی اس میں تراسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

یٰسٍ ۝۱ وَالْقُرْآنِ الْحَكِیْمِ ۝۲ اِنَّكَ

یس حکمت والے قرآن کی قسم بے شک

لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝۳ عَلٰی صِرَاطٍ

تم سیدھی راہ پر بھیجے

مُسْتَقِیْمٍ ۝۴ تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۝۵

گئے ہو عزت والے مہربان کا اتارا ہوا

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ

تاکہ تم اس قوم کو ڈرناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ

غٰفِلُوْنَ ۝۶ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی

بے خبر ہیں بے شک ان میں اکثر بربت ثابت

اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝۷ اِنَّا

ہو بیچکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے تم نے

جَعَلْنَا فِيْ اَعْيُنِنَا قَهْرًا ۝۸۹ اَغْلَاظَ فِيْ اِلٰى

ان کی گردنوں میں طوق کر دیئے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں

اَلَا ذُقْ اِن فِىْهِمْ مَّقْدَحُوْنَ ۝۹۰ وَجَعَلْنَا

یکہ ہیں تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے اور ہم نے

مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا ۝۹۱ وَ مِنْ

ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے

خَلْفِهِمْ سَدًّا ۝۹۲ اَفَاغْبٰثِيْنَهُمْ فَمَنْ لَّا

ایک دیوار اور انھیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انھیں

يُبْصِرُوْنَ ۝۹۳ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ

کچھ نہیں سوجھتا اور انھیں ایک سانپ سے تم انھیں ڈراؤ

اَمْ لَكُمْ تَنْذِيْرٌ هُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۹۴ اِنَّمَا

جاننے ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں تم تو

يُنذِرُ مَنْ اَتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ

اسی کو ڈر سکتا ہے جو نصیحت پر چلے اور رحمن سے بے دیکھے

بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ مَغْفِرَةً وَّاَجْرًا كَرِيْمًا ۝۹۵

ڈرنے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو

إِنَّا نَحْنُ نُدْعِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا

بے شک ہم مُردوں کو جلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو

قَدْ مَوَاوَا إِشَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ

انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن

فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۚ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا

رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں اور ان سے نشانیاں بیان کرو

أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۚ

اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا

جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو

فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ

بھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا اب ان سب نے کہا کہ بیشک ہم تمہاری طرف

مُرْسَلُونَ ۚ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ

بھیجے گئے ہیں بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے

مِثْلَنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ

آدمی اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا

وقف غفرانہ

وقف لازم

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَكَدِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا

تم نے جھوٹے ہو وہ بولے ہمارا رب

يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا

جانتا ہے کہ بیشک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے

عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ قَالُوا

ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا بولے ہم

إِنَّا نَطِيرُنَا إِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

تمہیں منحوس سمجھتے ہیں بیشک اگر تم باز نہ آئے

لَنَرْجِبَنَّكُمْ وَلِيَسَّخَبَنَّكُمْ مِنَ الْعَذَابِ

تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور بیشک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار

الَيْكُمْ ﴿١٧﴾ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ

پرے کی انھوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس پر

ذَكَرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾

بدکتے ہو کہ تم سمجھاتے گئے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى

اور سے شہر کے پرنے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا

قَالَ يَقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۝۲۰ اتَّبِعُوا

بولا اے میری قوم بیٹھے ہوؤں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی

مَنْ لَا يَسْئَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ

کرو جو تم سے کچھ نیک نہیں مانگتے اور وہ

مُهْتَدُونَ ۝۲۱ وَمَالِي لَا عَبْدٌ الَّذِي

راہ پر ہیں اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں

فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ۝۲۲ وَأَتَّخِذُ

جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا اللہ کے سوا

مِنْ دُونِهِ إِلَهَةٌ إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ

اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمن میرا کچھ بڑا چاہے

بِضْرٍ لَا تَغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا

لو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے

وَلَا يُنْقِذُونَ ۝۲۳ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ

اور نہ وہ مجھے بچا سکیں بے شک جب لو میں کھلی گمراہی

مَبِينٍ ۝۲۴ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ۝۲۵

میں ہوں بیشک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ط قَالَ يَلِيَّتْ

اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو کہا کسی طرح میری

قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ بِمَا غَفَرْتُ لِي رَبِّي

قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی

وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرَمِينَ ﴿۲۷﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا

اور مجھے عزت والوں میں کیا اور تم نے اس کے بعد

عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ

اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ

السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۲۸﴾ إِنَّ كَانَتْ

اتار اور نہ ہمیں کوئی لشکر اتارنا تھا وہ تو بس

الْأَصْحَابُ وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ

ایک ہی بیچ بھتی جیسی وہ بچھ کر

خَبِدُونَ ﴿۲۹﴾ يَحْسِرَةَ عَلَى الْعِبَادَةِ

رہ گئے اور کہا گیا کہ ہاتے افسوس ان بندوں پر

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے اٹھتا

يَسْتَهْزِءُونَ ۝۳۰ أَلَعَيْرِوَاكُمْ أَهْلَكْنَا

ہی کرتے ہیں کیا انھوں نے دیکھا ہم نے ان سے

قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ أَنهَمِ إِلَيْهْمُ

پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف

لَا يَرْجِعُونَ ۝۳۱ وَإِنْ كُلُّ لَنَا جِئِے

پلٹنے والے نہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے

لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝۳۲ وَأَيَّةٌ لَهُمْ

حضور حاضر لائے جائیں گے اور ان کے لیے ایک نشانی

الْأَرْضُ الْبَيْتَةُ ۝۳۳ وَأَخْرَجْنَا

مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس

مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهٗ يَأْكُلُونَ ۝۳۴ وَجَعَلْنَا

سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں اور ہم نے اس

فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے

وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝۳۵ لِيَأْكُلُوا

اور ہم نے اس میں سے کچھ چشمے بہائے کہ اسکے پھلوں

مِنْ شُكْرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ

میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں

أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۵﴾ سُبْحَانَ الَّذِي

تو کیا حق نہ مانتیں گے پاکی ہے اُسے جس نے سب

خَلَقَ الْأَرْضَ وَاجْرُكُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ

جوڑے بنائے ان بیجوں سے جنہیں زمین

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

اُگاتی ہے اور خود ان سے اور ان بیجوں سے جن کی انہیں

يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ

خبر نہیں اور اُن کے لیے ایک نشانی رات ہے ہم اس پر

مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمُ مُظْلِمُونَ ﴿۳۷﴾

سے دن کھینچ لیتے ہیں بھی وہ اندھیروں میں ہیں

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ

اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے یہ حکم

تَقْدِيرٍ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۳۸﴾ وَالْقَمَرَ قَدْرَهُ

ہے زبردست علم والے کا اور چاند کیلئے ہم نے

مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۳۹﴾

منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پڑائی ڈال

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ

سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے

وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِي

اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے اور ہر ایک ایک

فَلَكَ يُسَبِّحُونَ ﴿۴۰﴾ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَا

گھیرے ہیں بیسے رہا ہے اور ان کے لیے ایک نشانی

حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ

یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے

الْمَشْحُونِ ﴿۴۱﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ

بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں

مِثْلَهُ مَا يَرُكِبُونَ ﴿۴۲﴾ وَإِنْ نَشَاءُ

بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں اور ہم چاہیں تو انہیں

نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ

ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ

يُنْقَدُونَ ﴿۲۳﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا

بچلتے جائیں مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت

إِلَىٰ حِينٍ ﴿۲۴﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا

سک برتنے دینا اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم

مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ

اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴿۲۵﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ

اس امید پر کہ تم پر مہر ہو منہ پھیر لیتے ہیں اور جب کبھی انکے رب کی نشانیوں

مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا

سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو

عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۲۶﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ

اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ

أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ

کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں

كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ

کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اُسے کھلا نہیں جسے

لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعْتَهُ قَدْ عَلِمْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ

اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو نہیں

إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى

مگر کھلی گمراہی میں اور کہتے ہیں کب آئے گا

هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۸﴾

یہ وعدہ اگر تم سچے ہو

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً

راہ نہیں دیکھتے مگر ایک صیخ کی کہ انہیں

يَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿۴۹﴾ فَلَا

آلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسنے ہوں گے تو نہ

يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ

وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ

يَرْجِعُونَ ﴿۵۰﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا

کر جائیں اور پھونکا جائے گا صور جی بھی

هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿۵۱﴾

وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ^{۵۰} مَا سَكَنَّا

کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا

هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ

یہ ہے وہ جس کا رحمن نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں

الْمُرْسَلُونَ ۵۱ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صِيْحَةً

نے حق فرمایا وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چٹکھاڑ

وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَدَيْنَا

جہی وہ سب کے سب ہمارے حضور

مُحْضَرُونَ ۵۲ فَاَلْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ

حاضر ہو جائیں گے تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ

يُضَاعَفُ وَلَا تَجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ

نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے

تَعْمَلُونَ ۵۳ اِنْ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ

کئے گا بے شک جنت والے آج

اَلْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ۵۴ هُمْ وَ

دل کے بہلاؤں میں چین کرتے ہیں وہ اور

أَزْوَاجُهُمْ فِي ظُلُلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ

ان کی بیبیاں سایوں میں ہیں تختوں پر تکبیر

مُتَكُونُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ

لگائے اُن کے لیے اس میں میوہ ہے اور اُن کے لیے

مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ

ہے اس میں جو مانگیں ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا

كَأَحْيَمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَّازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا

فرمایا ہوا اور آج الگ پھٹ جاؤ

الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ

اے مجرمو! اے اولادِ آدم کیا میں نے

يَبْنَىٰ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ

تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ

بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری

أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

بہندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا

اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿۴۲﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ

تو کیا تمہیں عقل نہ تھی یہ ہے وہ جہنم

الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۴۳﴾ اصْلَوْهَا

جس کا تم سے وعدہ تھا آج اسی

الْيَوْمِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۴۴﴾ الْيَوْمِ

میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا آج ہم ان کے

نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

مؤنہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے

وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۴۵﴾

اور ان کے پاؤں ان کے کئے کی گواہی دیں گے

وَلَوْ أَنشَاء لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ

اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے

فَأَسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَإِن يَبْصُرُونَ ﴿۴۶﴾

پھر ایک کر رستہ کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجھتا

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ

اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿۶۷﴾

بدل دیتے نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ط

اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اُسے پیدائش میں اُلٹا پھیریں

أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۶۸﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ

تو کیا سمجھتے نہیں اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا

وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّ

اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور

قُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿۶۹﴾ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا

روشن قرآن کہ اسے ڈراتے جو زندہ ہو

وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۷۰﴾ أَوَلَمْ

اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے کیا

يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ

انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوہائے

اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿٤١﴾

ان کے لیے پیدا کئے تو یہ ان کے مالک ہیں

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ

اور انھیں ان کے لئے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں

وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا

اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کیلئے ان میں کئی طرح

مَنْافِعٌ وَمِمَّا يَكْتَسِبُونَ ﴿٤٣﴾

کے نفع اور پیسنے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے

وَإِن تَوَلَّوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةٌ

اور انھوں نے اللہ کے سوا اور خدا بھرا لئے

لَكُمْ فَهُمْ يَبْصُرُونَ ﴿٤٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ

کہ شاید ان کی مدد ہو وہ ان کی مدد نہیں

نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴿٤٥﴾

کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے

فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ أَعْلَمَ مَا

لو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بیشک ہم جانتے ہیں جو وہ

لَيْسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٤٤﴾ أَوْلَكُمْ

پچھتاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اور کیا

يَرِ الْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ

آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی ٹوند سے بنایا

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤٥﴾ وَضَرْبٌ

جھمی وہ صریح جھگڑا ہے اور ہمارے

لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ

لئے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا ایسا کون

يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٤٦﴾ قُلْ

ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں تم فرماؤ

يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ط

انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٧﴾ الَّذِي

اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے جس نے

جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ

تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی

نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿۸۰﴾

جبھی تم اس سے سلگاتے ہو

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے

يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَوَهَّ

ان جیسے اور نہیں بنا سکتا

بَلَىٰ قَدْ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۱﴾

کیوں نہیں اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ

اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۲﴾ فَسُبْحَانَ

اس سے فرماتے ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے تو یاکی ہے

الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ

اُسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور

الَّذِي يَرْجِعُونَ ﴿۸۳﴾

اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے

سُورَةُ مُحَمَّدٍ قَدْ نِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَأَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ

سورہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ میں نازل ہوئی اس میں اڑتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ

جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے

اللّٰهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝۱ وَالَّذِينَ

روکا اللہ نے ان کے عمل برباد کئے اور ایمان

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا

لئے اور اچھے کام کئے اور اس پر ایمان

بِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ

لئے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے

مِن رَّبِّهِمْ كَفَرُ عَنْهُمْ سِيَئَاتِهِمْ

رب کے پاس سے حق ہے اللہ نے ان کی بُرائیاں اتار دیں

وَأَصْلَحَ بِآلِهِمْ ۝۲ ذٰلِكَ بَانَ

اور ان کی حالتیں سنوار دیں یہ اس لئے کہ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّبَعُوا الْبَاطِلَ

کافر باطل کے پیرو ہوئے

وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ

اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب

مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ

کی طرف سے ہے اللہ لوگوں سے ان کے احوال میں

لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۚ فَإِذَا لَقِيتُمْ

بیان فرماتا ہے -- تو جب کافروں سے تمہارا

الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ ۚ

سامنا ہو تو گردنیں مارنا ہے

حَتَّىٰ إِذَا أَشْخَسْتَهُمْ فَسُدُّوْا

یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کرو تو مضبوط

الْوَشْيَاقَ ۚ فَمَا مَتَابِعِدُ وَإِمَافِدَاءَ

باندھو پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو چاہے فدیہ لے لو

حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ

یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے

ذَلِكَ ۞ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ

بات یہ ہے اور اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ

مِنْهُمْ ۞ وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَ اَبْعَضَكُمْ

لِيَتَّ ۞ مگر اس لیے کہ تم میں ایک دوسرے

بِبَعْضٍ ۞ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ

سے جانے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے

اللَّهِ فَلَن يَضِلَّ اَعْمَالُهُمْ ۝۴

اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہ فرمائے گا

سَيَهْدِيَهُمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝۵

جلد انہیں راہ دے گا اور ان کا کام بنا دے گا

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۝۶

اور انہیں جنت میں لے جائے گا انہیں اسکی پہچان کرا دی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ

اے ایمان والو اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ

يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝۷

تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا

وقد يبتد القوله ذللك ولكن حسن الصلوة بها قبله ولوقف على ذلك ط

وَالَّذِينَ كَفَرُوا افْتَعَسَا لَهُمُ وَا

اور جنہوں نے کفر کیا تو ان پر تباہی پڑے اور

أَضَلَّ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۝ ذَاكَ بِأَنَّهُمْ

اللہ ان کے اعمال برباد کرے یہ اس لیے کہ انہیں

كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ

ناگوار ہوا جو اللہ نے اتارا تو اللہ نے ان کا

أَعْمَالَهُمْ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي

کیا دھرا اکارت کیا تو کیا انہوں نے زمین میں

الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا

عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ

کیسا انجام ہوا اللہ نے ان پر تباہی

اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَالْكَافِرِينَ أَهْمًا ۝

ڈالی اور ان کافروں کے لئے بھی ویسی کتنی ہی ہیں

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا

یہ اس لئے کہ مسلمانوں کا مولیٰ اللہ ہے

وَإِنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَأَمْوَالُهُمْ ۝۱۱

اور کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں

إِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا

بے شک اللہ داخل فرمائے گا انھیں جو ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ

اور اچھے کام کئے باغوں میں جن کے

مِنْ تَحْتِهَا اَنْهٰرٌ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا

نیچے نہریں رواں اور کافر برتتے ہیں

يَتَّبِعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا يَأْكُلُ

اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے

الْاَنْعَامِ وَالنّٰرُ مَثْوٰى لَهُمْ ۝۱۲

کھائیں اور آگ میں ان کا ٹھکانا ہے اور

كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً

کتنے ہی شہر کہ اس شہر سے قوت میں زیادہ

مِنْ قَرْيَةٍ اَلَّتِيْ اَخْرَجْنَاكَ

تھے جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا

أَهْلَكْتَهُمْ قُلُوبًا صِرَاحًا ۝۱۳۰ أَفَنْ

ہم نے انہیں ہلاک فرمایا تو ان کا کوئی مددگار نہیں تو کیا جو اپنے

كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ

رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا

تَبِعُوا لَكَ سَوْءٌ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا

جس کے برے عمل سے بھلے دکھائے گئے اور وہ اپنی

أَهْوَاءَهُمْ ۝۱۳۱ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي

خواہشوں کے پیچھے چلے احوال اس جنت کا جس کا

وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن

وعدہ پر آمیز گاروں سے ہے اس میں ایسی پانی کی

مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ

نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے اور ایسے دودھ کی نہریں

لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن

ہیں جس کا مزہ نہ بدلا اور ایسی شراب

خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّرِبِ لَيْسَ فِيهَا سُكْرٌ وَلَا

کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے اور ایسی

مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّی ط وَ لَهُمْ فِيهَا مِنْ

شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا اور ان کے لئے اس میں

كُلِّ الشَّجَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ط

ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب کی مغفرت

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا

کیا ایسے چین والے انکے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور

مَاءٍ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ⑮

انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے کہ آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے

وَمِنْهُمْ مَّن يَّسْتَبِعُ إِلَيْكَ حَتَّى

اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سننتے ہیں یہاں تک

إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ

کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے

أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَاؤُكَ

ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا یہ ہیں وہ

الَّذِينَ كَانُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا

جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں

أَهْوَاءَهُمْ ۝ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ

کے تابع ہوئے اور جنہوں نے راہِ پائی اللہ نے ان کی

هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۝ فَهَلْ

ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی بہہیزگاری انہیں عطا فرمائی تو کابے کے

يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ

انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک

بَغْتَةً فَكَدُجَاءٍ أَشْرَاطَهَا قَانِي

آجائے کہ اس کی علامتیں تو آہی چکی ہیں پھر جب

لَهُمْ إِذَا جَاءَ تَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۝ فَاعْلَمَ

وہ آجائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا تو جان لو کہ

أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذُنُوبِكَ

اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور اسے مجوب اپنے خاصوں

وَاللُّمُومِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ جانتا ہے

مَقَلِّبِكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ

دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا اور مسلمان کہتے ہیں کہ کوئی

اَمْنُوا لَوْ لَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَاِذَا نَزَّلَتْ

سُورَتٌ كَيْوَنَ اَنْتَارِي گئی پھر جب کوئی پختہ

سُورَةٌ مَّحْكَمَةٌ وَاذْكُرْ فِيهَا الْقِتَالَ

سُورَتٌ اْتَارِي گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا

رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُوْنَ

تو تم دیکھو گے انھیں جن کے دلوں میں بیماری ہے تو تمھاری طرف

اِلَيْكَ نَظَرَ الْبَغِيْثِ عَلَيْهِ مِنْ

اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں جس پر مڑنی پھرائی ہو تو تو ان کے

الْمَوْتِ قَاوِلِيْ لَهُمْ طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ

حق میں بہتر یہ تھا کہ فرمانبرداری کرتے اور ابھی بات کہتے

مَعْرُوْفٌ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرَ فُلُوْصِدُوْا

پھر جب حکم ناطق ہو تو اگر اللہ سے سچے

اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ فَهَلْ عَسَيْتُمْ

رہتے تو ان کا بھلا تھا تو کیا تمھارے یہ لچھن

اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اِنَّ تَفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ

نظر آئے ہیں کہ اگر تمھیں حکومت ملے تو زمین میں فساد

وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

بھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو یہ ہیں وہ لوگ جن پر

لَعْنَةُ اللَّهِ فَاصَّصَهُمْ وَأَعْنَى

اللہ نے لعنت کی اور انھیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی

أَبْصَارَهُمْ ۗ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ

آنکھیں بھوڑ دیں تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں

أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۗ إِنَّ الَّذِينَ

یا بعضے دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں بیشک وہ جو اپنے

أَرْبَابًا وَعَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا

پہچھے یلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت

تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۗ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ

ان پر کھل چکی تھی شیطان نے انھیں

لَهُمْ طُغْيَانًا وَعَمَلِيَ لَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

افریب دیا اور انھیں دنیا میں مدتوں رہنے کی اُمید دلائی یہ اس لیے کہ

قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمُنَزَّلُونَ ۗ وَاللَّهُ

انھوں نے کہا ان لوگوں سے جنھیں اللہ کا اتارا ہوا ناگوار ہے

سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ

ایک کام میں ہم تمہاری مانیں گے اور اللہ ان کی

يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ۖ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ

پچھٹی ہوئی جانتا ہے تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض

الْمَلَائِكَةُ يُضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَ

کریں گے ان کے منہ اور ان کی پیٹھیں

أَدْبَارَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا

مارتے ہوئے یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے تابع

مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ

ہوئے جس میں اللہ کی ناراضی ہے اور اس کی

فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۚ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ

خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی تو اس نے انکے عمل اکارت کر دیئے کیا جن کے

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۚ إِنَّ لِنُ يُخْرِجَ اللَّهُ

دلوں میں بیماری ہے اس گھمنڈ میں ہیں کہ اللہ ان کے پھپھے برظاہر

أَضْغَانَهُمْ ۚ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ

نہ فرماتے گا اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا

فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَبِيهِمْ وَاسْتَعْرَفْتَهُمْ فِي

دیں کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو اور ضرور تم انہیں بات کے

لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿۳۰﴾

اسلوب میں پہچان لو گے اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے

وَلَنَبَلِّغَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْجَاهِدِينَ مِنْكُمْ

اور ضرور ہم تمہیں جا بچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں

وَالصَّابِرِينَ وَنَبَلِّغُوا خَبَارَكُمْ ﴿۳۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ

اور صابروں کو اور تمہاری خبریں آزمائیں بیشک وہ جنہوں

كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا

نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی

الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ

مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان پر ظاہر ہو چکی تھی

لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ

وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے اور بہت جلد اللہ ان کا کیا دھرا

أَعْمَالَهُمْ ﴿۳۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا

اکارت کرو گے گا اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو

اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا

اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل

أَعْمَالَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا

باطل نہ کرو بیشک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ

کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو

فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ فَلَا تَهِنُوا وَ

اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا تو تم سستی نہ کرو اور

تَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۚ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۚ

آپ صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب آؤ گے

وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرِكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۚ

اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ۚ وَلَهُوَ وَإِنْ

دنیا کی زندگی تو یہی کھیل رکود ہے اور اگر

تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا

تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور

يَسْئَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۖ اِنْ يَسْئَلْكُمْ هَا

کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا اگر انھیں تم سے طلب کرے

فِي حِفْظِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ۖ

اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے اور وہ بخل تمہارے دلوں کے پیل ظاہر کر دے گا

هَآءِ اَنْتُمْ هُوَ اَدْعَاؤُكُمْ تَدْخُلُونَ لِنُفُوقِ اِنْفِ

ہاں ہاں یہ جو تم ہو بلا تے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ

سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَا

کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے اور

مَنْ يَبْخُلُ فَاِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ط

جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ

اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج اور اگر

تَتَوَلَّوْا السُّبُودَ لَنْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تَعْرِ

تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا پھر

لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ ۖ

انہوں کو وہ تم جیسے نہ ہوں گے

سُورَةُ الْفَتْحِ مَدِينَةٍ وَهِيَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَأَرْبَعٌ رُكُوعَاتٍ

سورہ فتح مدینہ میں نازل ہوئی اس کی انتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝۱

بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمادی

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ

تاکہ اللہ تمہارے سب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے

وَمَا تَاخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

اور تمہارے پچھلوں کے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝۲

اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے اور

يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝۳ هُوَ الَّذِي

اللہ تمہاری زبردست مدد فرماتے وہی ہے جس

اَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ

نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا

لِيَزِدَّ اٰدُوْا اِيْمَانًا مَّا مَعِ اِيْمَانِهِمْ وَاَللّٰهُ

تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے اور اللہ

جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَللّٰهُ

ہی کی ملک میں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے اور اللہ

عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِيْنَ

علم و حکمت والا ہے تاکہ ایمان والے مردوں

وَالْمُؤْمِنٰتِ بَحْتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے جن کے نیچے

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكْفَرُ عَنْهُمْ

نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں اور ان کی بڑائیاں ان سے

سَيِّاٰتِهِمْ وَاَللّٰهُ فَوْزًا

اتار دے اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی

عَظِيْمًا ۝ وَيُعَذِّبُ الْمُنٰفِقِيْنَ

بڑے اور عذاب دے منافق مردوں

وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ

اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو

الظَّالِمِينَ يَا اللَّهُ ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ

جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں انہیں پر ہے بڑی

دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

گردش اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا

وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ

اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار فرمایا اور وہ کیا ہی بُرا

مَصِيرًا ④ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

انجام ہے اور اللہ ہی کی ملک ہیں آسمانوں اور زمین کے سب لشکر

وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ⑤ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

اور اللہ عزت و حکمت والا ہے بیشک ہم نے تمہیں بھیجا

شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ⑥ لِيُؤْمِنُوا

حاضر و ناظر اور خوشی و ڈر سناتا تاکہ لوگوں تم

يَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّزُوا وَتُوقِرُوا

اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو

وَلِتَسُبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ⑦ إِنَّ الَّذِينَ

اور صبح و شام اللہ کی یا کی بولو وہ جو تمہاری

يُيَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُيَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ

کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں

فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَسَنَكُتُ فَإِنَّمَا

پر اللہ کا ہاتھ ہے تو جس نے عہد کو توڑا اس نے

يُنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُوْتِيَ بِمَا

اپنے بڑے عہد کو توڑا اور جس نے پورا کیا

عَهْدًا عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا

وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب

عَظِيمًا ۝ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ

دے گا اب تم سے کہیں گے جو گنوار پیچھے رہ

مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْنَا أَمْوَالَنَا وَ

گئے تھے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے

أَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا يَقُولُونَ بِالسِّنِيهِمْ

گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا اب حضور ہماری معفرت چاہیں اپنی زبانوں سے

مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ

وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں تم فرماؤ تو اللہ کے سامنے کسے

لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ

تھارا یہ کچھ اختیار ہے اگر وہ تمھارا

ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ

بُرا چاہے یا تمھاری بھلائی کا ارادہ فرماتے بلکہ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۱۱ بَلْ ظَنَنْتُمْ

اللہ کو تمھارے کاموں کی خبر ہے بلکہ تم تو

أَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ

سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز

إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزِينَٰتِكَ فِي

گھروں کو واپس نہ آئیں گے اور اسی کو اپنے

قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ أَنَّ السَّوْءَ وَ

دلوں میں بھلا سمجھے ہوئے تھے اور تم نے بُرا گمان کیا اور

كُنْتُمْ قَوْمًا يُّورَآ ۝۱۲ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنِ

تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے اور جو ایمان نہ لائے

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَاتِنَا أَتَّكُفِّرِينَ

اللہ اور اس کے رسول پر بیشک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار

سَعِيرًا ۱۳) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

کر رکھی ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ط

جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۴) سَيَقُولُ

اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اب کہیں گے

الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ

جو بچھے بیٹھ رہنے والے جب تم غنیمتیں لینے چلو تو

لِتَأْخُذُوا هَٰذَا زَوَايَا تَتَّبِعُكُمْ يَرِيدُونَ أَن

ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو وہ چاہتے ہیں

يُؤَيِّدُوا كَلِمَةَ اللَّهِ وَتَلَّيْلُوا نَاصِيحَتَنَا

اللہ کا کلام بدل دیں تم فرماؤ ہرگز تم ہمارے

كذاب لكم قال الله من قبل

ساتھ نہ آؤ اللہ نے پہلے سے یونہی فرما دیا ہے

فَسَيَقُولُونَ يَا بئس الحسد وناسينا كانوا

تو اب کہیں گے بئس حسد تم ہم سے جلتے ہو بلکہ وہ بات نہ

يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۵ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ

سمجھتے تھے مگر تھوڑی ان بیچھے رہ گئے ہوئے

مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ

گنواروں سے فرماؤ عنقریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم

بِأَيْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أُولَئِكَ

کی طرف بھلاتے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں

فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا

پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ

اور اگر پھر جاؤ گے جیسے پہلے پھر گئے تو

يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۶ لَيْسَ

تمہیں دردناک عذاب دے گا اندھے

عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْبٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ

پر تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر

حَرْبٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْبٌ وَلَا

مضانقہ اور نہ بیمار پر مواخذہ اور

مَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتِ

جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے باغوں میں

يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ

لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں اور جو

يَتَوَلَّ يَعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۱۷ لَقَدْ

پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا بے شک

رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبْعَثُونَكَ

اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے

تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ

تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے

فَتْحًا قَرِيبًا ۱۸ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً

والی فتح کا انعام دیا اور بہت سی غنیمتیں

كَأَخْذِ وَنَهَاظٍ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۱۹

جن کو نہیں اور اللہ عزت و حکمت والا ہے

وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً

اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں

تَأْخُذُوهَا فَعَجَلْ لَكُمْ هَذِهِ

کا کہ تم لوگے تو تمہیں یہ جلد عطا فرمادی

وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ

اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور اس لئے کہ

آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا

ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ

مُسْتَقِيمًا ۝۲۰ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا

دکھا دے اور ایک اور جو تمہارے بل کی نہ تھی

عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا طَوَّ

وہ اللہ کے قبضہ میں ہے اور

كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝۲۱

اللہ ہر چیز پر قادر ہے

وَلَوْ قَاتَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَالِدِينَ

اور اگر کافر تم سے لڑیں تو ضرور تمہارے مقابلہ سے بیٹھ بھیر دیں

ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وِلْيًا وَلَا نَصِيرًا ﴿۲۲﴾

گے پھر کوئی حمایت نہ پائیں گے نہ مددگار

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ

اللہ کا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے

وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۲۳﴾

اور اگر تم اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے

وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ

اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے وادی مکہ میں

مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿۲۴﴾

اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ

وہ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُمْ فَإِنْ

حرام سے روکا اور قربانی کے جانور رُکے پڑے اپنی

يَبْلُغُ مَجَلَّةً طَوْلاً رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَ

جگہ پہنچنے سے اور اگر یہ نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور

نِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُنَّ أَنْ تَطَّوَّهُنَّ

کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں کہیں تم انہیں روند ڈالو

فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُنَّ مَعْرَةٌ بَغِيرَ

تو تمہیں ان کی طرف سے ایجابی میں کوئی مکروہ پہنچے تو ہم تمہیں

عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ

ان کی مثال کی اجازت دیتے ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں

يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ

داخل کرے جسے چاہے اگر وہ جدا ہو جاتے تو ضرور ہم ان میں کے

كَفَرُوا وَإِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾

کافروں کو دردناک عذاب دیتے

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ

جب کہ کافروں نے اپنے دلوں میں اڑ رکھی وہی

الْحَيَّةُ حَيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ

زمانہ جاہلیت کی اڑ تو اللہ

اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى

نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور اپنے

الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى

ایمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا

وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ

اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اسکے اہل تھے اور اللہ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَقَدْ صَدَقَ

سب کچھ جانتا ہے بیشک اللہ نے سچ

اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّءِيفَ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ

کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب بیشک تم ضرور مسجد

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

حرام میں داخل ہو گے اگر اللہ چاہے

إِمْنًا مِنْ مَخْلِقِينَ رِءُوسِكُمْ وَمَقْصِرِينَ

امن و امان سے اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے

لَا تَخَافُونِ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ

بے خوف تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں تو اس سے

مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا ۲۷ ۱۰۲ ۲۶ ۲۸

یہاں سے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی وہی ہے جس نے

أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے

شَهِيدًا ۲۸ ۱۰۲ ۲۶ ۲۸

گواہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے

مَعَهُ أَشَدَّ أَعْيُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ

ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں

بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا ابْتِغَاءَ

نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سَيَبَاهِمُ

اللہ کا فضل و رضا چاہتے ان کی علامت

فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ

ان کے بیہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے یہ ان کی

مَثَلَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلَهُمْ فِي

صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت

إِلَّا نَجِيلٌ كَزُرْعٍ أَخْرَجَ شَطَأَهُ

انجیل میں جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا بیٹھا

فَاذْرَاهُ فَاسْتَعْظَمَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ

نکالا پھر اُسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی پھر اپنی ساق پر سیدھی

سُوقِهِ يَعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ

کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے

بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ

کافروں کے دل جلیں اللہ نے وعدہ کیا ان سے

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ

جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں

مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

بخشش اور بڑے ثواب کا

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ

سورة الرحمن مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں اٹھہتر آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

الرَّحْمٰنُ ۝۱ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝۲ خَلَقَ

رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان

الْاِنْسَانَ ۝۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝۴ الشَّمْسُ

محمد کو پیدا کیا ماکان وما یكون کا بیان انھیں سکھایا سورج

وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝۵ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ

اور چاند حساب سے ہیں اور بزرے اور پیڑ

يَسْجُدْنَ ۝۶ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ

سجدہ کرتے ہیں اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور

الْمِيزَانَ ۝۷ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝۸ وَ

ترازو رکھی کہ ترازو میں لے اعتدالی نہ کرو اور

اَقِمْوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوْا

انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن

الْمِيزَانَ ۹ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۱۰

نہ گھٹاؤ اور زمین رکھی مخلوق کے لیے

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۱۱

اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۱۲ فَبِأَيِّ

اور بھس کے ساتھ۔ اناج اور خوشبو کے پھول تو ایسے جن وانس

الْأَعْرَابِ كَمَا تَكْذِبُ الْإِنْسَانُ مِنْ

تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاؤ گے اس نے آدمی کو بسایا بھتی

صُلَاحٍ كَالْفَخَّارِ ۱۳ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ

مٹی سے جیسے ٹھیکری اور جن کو پیدا فرمایا

مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ۱۴ فَبِأَيِّ الْأَعْرَابِ كَمَا

آگ کے لوکے سے تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت

تَكْذِبُ الْإِنْسَانُ مِنْ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ

جھٹلاؤ گے دونوں یورپ کا رب اور دونوں

الْمَغْرِبَيْنِ ۱۵ فَبِأَيِّ الْأَعْرَابِ كَمَا تَكْذِبُ الْإِنْسَانُ

پچھم کا رب تو تم دونوں اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاؤ گے

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۝۱۹ بَيْنَهُمَا

اس نے دو سمندر بہاتے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے اور ہے ان میں

بِرُزْخٍ لَّا يَبْغِيَانِ ۝۲۰ فَيَأْتِي الْآبْرَارَ بِكَمَا

روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا تو اپنے رب کی کوشی نعمت

تُكَذِّبِينَ ۝۲۱ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ

بھٹلاؤ گے ان میں سے موتی اور مونگا

وَالْمَرْجَانُ ۝۲۲ فَيَأْتِي الْآبْرَارَ بِكَمَا

نکلتا ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت

يُكَذِّبِينَ ۝۲۳ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي

بھٹلاؤ گے اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں

الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝۲۴ فَيَأْتِي الْآبْرَارَ بِكَمَا

اچھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ تو اپنے رب کی کوشی نعمت

يُكَذِّبِينَ ۝۲۵ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝۲۶

بھٹلاؤ گے زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے

وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝۲۷

اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا

فِي أَيِّ الْأَعْيُنِ كَذِبِينَ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ

تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے اسی کے

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ

منگتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اسے ہر دن

هُوَ فِي شَأْنِ ﴿٢٩﴾ فِي أَيِّ الْأَعْيُنِ كَذِبًا

ایک کام ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت

تُكْذِبِينَ ﴿٣٠﴾ سَنَفْرَعُ لَكُمْ آيَةً

جھٹلاؤ گے جلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا

الْثَّقَلَيْنِ ﴿٣١﴾ فِي أَيِّ الْأَعْيُنِ كَذِبِينَ ﴿٣٢﴾

قصد فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاؤ گے

يَبْعَثُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنْ أَسْطَعْتُمْ

انے جن و انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے

أَنْ تَنْفَذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَ

کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے

الْأَرْضِ فَانْفَذُوا وَلَا تَنْفَذُونَ إِلَّا

نیکل جاؤ تو نیکل جاؤ جہاں نیکل کر جاؤ گے اسی کی

بِسُلْطٰنٍ ۳۳ ﴿۳۳﴾ فِیٰۤایِ الْاِءِ رَبِّکُمْ اٰتٰکِذِبِیْنَ ﴿۳۲﴾

سلطنت ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے

یُرْسَلُ عَلَیْکُمْ شَوْاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّ

تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپیٹ اور بے لپیٹ کا کام

نُحٰسٌ فَلَا تَنْتَصِرِنَّ ۳۴ ﴿۳۴﴾ فِیٰۤایِ الْاِءِ

دھواں تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے تو اپنے رب کی

رَبِّکُمْ اٰتٰکِذِبِیْنَ ۳۵ ﴿۳۵﴾ فَاِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ

کونسی نعمت جھٹلاؤ گے پھر جب آسمان پھٹ جائے گا

فَکَانَتْ وَّرِدَّةً کَالِدِّهَانَ ۳۶ ﴿۳۶﴾ فِیٰۤایِ

تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نرمی تو اپنے رب

الْاِءِ رَبِّکُمْ اٰتٰکِذِبِیْنَ ۳۷ ﴿۳۷﴾ فِیَوْمَیْذِ

کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے تو اس دن گنہگار

یُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِۦٓ اِنْسٌ وَّاٰجَانٌ ۳۸ ﴿۳۸﴾

کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے

فِیٰۤایِ الْاِءِ رَبِّکُمْ اٰتٰکِذِبِیْنَ ۳۹ ﴿۳۹﴾ یُعْرَفُ

تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے مجرم اپنے

الْمُجْرِمُونَ لِيَبْئَسَ لَهُمْ فِئُؤُهُمْ بِالتَّوَّابِ

یہ جہنم سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں

وَالْأَقْدَامِ ﴿٣١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٢﴾

ڈالے جائیں گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٣٤﴾

یہ ہیں وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں

يُطَوَّفُونَ فِيهَا وَبَيْنَ حَيْمِيمٍ إِنْ فَبِأَيِّ

پھیرے کر رہیں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں تو اپنے

الْآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٣٥﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ

رب کی کوشی نعمت جھٹلاؤ گے اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے

رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٣٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٣٧﴾

اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے

ذَوَاتِنَا أَفْتَانٍ ﴿٣٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

بہت سی ڈالوں والیاں تو اپنے رب کی کون سی نعمت

تُكذِّبِينَ ﴿٣٩﴾ فِيهِمَا عَيْنِينَ تَجْرِيانِ ﴿٤٠﴾

جھٹلاؤ گے ان میں دو چشمے بہتے ہیں

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِنْ

تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے ان میں ۱

كُلِّ فَآكِهَةٍ زَوْجَيْنِ ﴿٥٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

میوہ دو دو قسم کا تو اپنے رب کی کونسی نعمت

تُكَذِّبِينَ ﴿٥٣﴾ مُتَكِبِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا

جھٹلاؤ گے اور ایسے نیکھونوں پر تکیہ لگاتے جس کا

مِنَ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

استر قناویز کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٥﴾ فِيهِمْ قَصْرٌ

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاؤ گے ان چھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ

الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ

شوہر کے سوا کسی کو آٹکھ اٹھا کر نہیں دیکھتیں ان سے پہلے انھیں نہ چھو کسی آدمی اور

لَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٧﴾

نہ جن نے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ

گویا وہ لعل اور یاقوت اور موتکا ہیں تو اپنے

الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كُذِّبُوا ۖ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ

رب کی کونسی نعمت جھٹلاؤ گے نیکی کا بدلہ کیا ہے

إِلَّا الْإِحْسَانُ ۗ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

مگر نیکی تو اپنے رب کی کونسی نعمت

كُذِّبُوا ۖ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتِينَ ۗ فَبِأَيِّ

جھٹلاؤ گے اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو اپنے رب

الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كُذِّبُوا ۖ مَدَاهَا مَتْنٌ ۗ

کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے نہایت بڑی سے سیاہی کی جھلکے رہی ہیں

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا كُذِّبُوا ۖ فِيهِمَا

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاؤ گے ان میں

عَيْنِينَ نَضَّآخَاتٍ ۗ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے تو اپنے رب کی کون سی نعمت

كُذِّبُوا ۖ فِيهِمَا قَاكِبَةٌ ۗ وَخَلٌّ ۗ وَرَمَانٌ ۗ

جھٹلاؤ گے ان میں مینوے اور کھجوریں اور انار ہیں

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا كُذِّبُوا ۖ فِيْهِنَّ

تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے ان میں عورتیں ہیں

خَيْرُكُمْ حَسَانٌ ﴿٤٠﴾ فَيَا أَيُّهَا رَبُّكُمْ

عادت کی نیک صورت کی اچھی تو اپنے رب کی کونسی نعمت

مُكَذِّبِينَ ﴿٤١﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٤٢﴾

جھٹلاؤ گے حوریں ہیں عیموں میں پردہ نشین

فَيَا أَيُّهَا رَبُّكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤٣﴾ لَمْ يَطْمِئِنُّوا

تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاؤ گے ان سے پہلے انھیں ہاتھ

إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٤٤﴾ فَيَا أَيُّهَا رَبُّكُمْ

نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی

رَبُّكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى رُفُوفٍ

کونسی نعمت جھٹلاؤ گے تکبر لگاتے ہوئے سبز پتھونوں

خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حَسَانٍ ﴿٤٦﴾ فَيَا أَيُّهَا رَبُّكُمْ

اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر تو اپنے رب کی

رَبُّكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ

کون سی نعمت جھٹلاؤ گے بڑی برکت والا ہے تمھارے

ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٤٨﴾

رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ وَتِسْعُونَ آيَةً وَثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ

سورہ واقعہ مکہ میں نازل ہوئی اس میں پھیلاؤ سے آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱۱ لَيْسَ لِقُوعِهَا

جب ہولے گی وہ ہونے والی اس وقت اسکے ہونے میں کسی کو انکار کی

كَادِبَةٍ ۝۱۲ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝۱۳ اِذَا رَجَبَتْ

گنجائش نہ ہوگی کسی کو بیت کر نیوالی کسی کو بلندی مینے والی جب زمین

الْاَرْضُ رُجًا ۝۱۴ وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝۱۵

کانپے گی ٹھہر ٹھہرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّبْتَثًّا ۝۱۶ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا

جیسے روزان کی دھوپ میں غبار کے ہارکے پھیلے ہوئے اور تم میں میں قسم کے

ثَلَاثَةٌ ۝۱۷ فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اصْحَابُ

ہو جاؤ گے تو دو داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف

الْمَيْمَنَةِ ۝۱۸ وَاصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا

والے اور دو بائیں طرف والے کیسے

أَصْحَابُ الْمَشْأَةِ ۙ وَالسَّابِقُونَ ۙ

بائیں طرف والے اور جو سبقت لے گئے وہ

السَّابِقُونَ ۙ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۙ

تو سبقت ہی لے گئے وہی مقرب بارگاہ میں

فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۙ ثَلَاثَةٌ مِّنَ

یعین کے باغوں میں اگلوں میں سے

الْأُولَئِينَ ۙ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۙ

ایک گروہ اور پچھلوں میں سے کھوٹے

عَلَى سُرٍّ مَّوْضُونَةٍ ۙ مَّتَّكِينَ ۙ

جڑاؤ تختوں پر ہوں گے ان پر تکیہ لگاتے

عَلَيْهَا مَّتَّكِلِينَ ۙ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ

ہوتے آئے سائے ان کے گرد لیے پھریں گے

وَلَدَانٌ مُّخْدَوُونَ ۙ بِأَكْوَابٍ وَ

ہمیشہ رہنے والے لڑکے کوزے اور

أَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۙ

آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ

يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُزْفُونَ ۱۹

انہیں دردِ سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے

وَقَاكِهِمْ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۲۰

اور ایسے جو پسند کریں اور

لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۲۱

پرندوں کا گوشت جو چاہیں اور

حُورٍ عِينٍ ۲۲ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ

بڑی آنکھ والی حوریں جیسے بیچھے رکھے ہوئے

الْمُكْتُونِ ۲۳ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۲۴

موتی جہانِ جہنم کے اعمال کا

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۲۵

اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ گنہگاری

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۲۶ وَأَصْحَابُ

ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام اور دہنی طرف

الْيَمِينِ ۲۷ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۲۸

وائے ایسے دہنی طرف والے

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۝ ۳۸ ۝ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۝ ۳۹

بے کانٹوں کی بیڑیوں میں اور کیلوں کے پگھلوں میں

وَطِلِّ مَمْدُودٍ ۝ ۳۰ ۝ وَمَاءٍ سَّاكِبٍ ۝ ۳۱ ۝ وَفَاكِهَةٍ

اور ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں اور بہت سے

كَثِيرَةٍ ۝ ۳۲ ۝ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝ ۳۳

میووں میں جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں

وَفَرِشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۝ ۳۴ ۝ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ

اور بلند بچھونوں میں بے شک ہم نے ان عورتوں کو ابھی اٹھایا

أَنْشَاءً ۝ ۳۵ ۝ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۝ ۳۶ ۝ عُرُبًا

تو انھیں بنایا کنواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں انھیں پیار

أَثْرَابًا ۝ ۳۷ ۝ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝ ۳۸ ۝ ثَلَاثَةٌ

دلتیاں ایک عمر والیاں دہنی طرف والوں کے لیے اگلوں میں

مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۝ ۳۹ ۝ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝ ۴۰

سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ

وَأَصْحَابِ الشِّمَالِ ۝ ۴۱ ۝ مَا أَصْحَابُ

اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف

الشَّمَالِ ۞ فِي سُبُورٍ وَحَمِيمٍ ۞

والے جلتی ہو اور کھولتے پانی میں

وَضَلَّكَ مِنْ يَحْمُورٍ ۞ لَا يَارِدُ وَلَا

اور جلتے دھوئیں کی پھاؤں میں جو نہ ٹھنڈی نہ

كَرِيمٍ ۞ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ

عزت کی بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں

مُتَرَفِّعِينَ ۞ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى

میں تھے اور اس سے بڑے گناہ کی ہٹ

الْجَنَّةِ الْعَظِيمِ ۞ وَكَانُوا يَقُولُونَ

رکتے اور کہتے تھے کیا

إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا

جب ہم مرجائیں اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور

عِبَادًا لِّلْمَبْعُوثِينَ ۞ وَإِنَّا لَآوِلُونَ

ہم اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی

قُلْ إِنَّ الْآوِلِينَ وَالْآخِرِينَ

تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے

لَتَجِبُوْنَ اِلَيْهِ اَمِيقَاتٍ يَوْمٍ

ضرور اکٹھے کئے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی

مَعْلُوْمٍ ۝۵۰ ثُمَّ اَتَاكُمْ اِيَّهَا الضَّالُّوْنَ

میراد پر پھر بے شک اسے گمراہوں جھٹلانے

الْمُكَذِّبُوْنَ ۝۵۱ لَا يَكُوْنُ مِنْ شَجَرٍ

والو ضرور جھوٹوں کے پیڑ میں سے

مِّنْ رَّقُوْمٍ ۝۵۲ فَبِالْوُنُوقِ مِنْهَا

کھاؤ گے پھر اس سے پیٹ

الْبُطُوْنِ ۝۵۳ فَشَرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنْ

بھرو گے پھر اس پر کھولتا پانی

الْحَبِيْمِ ۝۵۴ فَشَرِبُوْنَ شَرِبَ الْهَيْمِ ۝۵۵

پینو گے پھر ایسا پینو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پینیں

هٰذَا نَزَّلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۝۵۶ نَحْنُ

یہ ان کی جہانی ہے انصاف کے دن ہم نے

خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُوْنَ ۝۵۷

تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں دیتے

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ۖ ط ۵۸ ۚ وَأَنْتُمْ

تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو کیا تم اس کا

تَدْعُونَ ۚ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۖ ۵۹ ۚ نَحْنُ

آدمی بناتے ہو یا ہم بنائے والے ہیں ہم نے

قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ

تم میں مرنا بھڑایا اور ہم اس سے

بِمَسْبُوقِينَ ۖ ۶۰ ۚ عَلَىٰ أَنْ تَبْدِلَ أَمْثَالَكُمْ

ہارنے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں

وَأَنْتُمْ تَنْتَشِكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ ۶۱ ۚ وَلَقَدْ

اور تمہاری صورتیں وہ کراؤں جس کی تمہیں خبر نہیں اور ہنشک

عَلَيْكُمْ النُّشَاةَ الْأُولَىٰ فَلَؤَلِئِكَ كُرْهُونَ ۖ ۶۲ ۚ

تم جان چکے ہو پہلی اٹھان پھر کیوں نہیں سوچتے

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۖ ط ۶۳ ۚ وَأَنْتُمْ

تو بھلا، بیٹاؤ تو جو بونے ہو تو کیا تم

تَزْرَعُونَ ۚ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۖ ۶۴ ۚ

اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنائے والے ہیں

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ

ہم چاہیں تو اسے روندن کر دیں پھر تم باتیں

تَفَكَّهُونَ ﴿٤٥﴾ إِنَّا لَنَدْعُرُمُونَكُمْ بِلُ

بتاتے رہ جاؤ ہم پر چٹی پٹی بلکہ

نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٤٦﴾ أَفَرَأَيْتُمْ

ہم بے نصیب رہے تو بھلا بتاؤ

الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنْتُمْ

تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے

أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمَزْنِ أَمْ نَحْنُ

اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں

الْمُنزِلُونَ ﴿٤٩﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ اجْجًا

اتارنے والے ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں

قُلُوبًا تَشْكُرُونَ ﴿٥٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ

پھر کیوں نہیں شکر کرتے تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ

الَّتِي تُوْرُونَ ﴿٥١﴾ وَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ

جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا

شَجَرَتَهَا أَمْزَحْنُ الْبُنَشُونَ ۴۲ نَحْنُ

پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے ہم نے

جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ ۴۳

اے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۴۴

تو اے محبوب تم پرانی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی

فَلَا أَقْسَمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۴۵ وَإِنَّهُ

تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں اور تم سمجھو

لَنَفْسٍ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمًا ۴۶ إِنَّهُ

تو یہ بڑی قسم ہے بے شک

لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۴۷ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۴۸

یہ عزت والا قرآن ہے محفوظ نوشتہ میں

لَا يَكْسَهُ إِلَّا الْمَطْهَرُونَ ۴۹ تَنْزِيلٌ

اے نہ چھوئیں مگر با وضو اتارا ہوا

مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۵۰ أَفَبِعَذَابِنَا

ہے سارے جہان کے رب کا تو کیا

الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۝۸۱ ۱

اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور

تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ ۝۸۲ ۱

اپنا حصہ یہ کہتے ہو کہ جھٹلاتے ہو

فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۱ ۝۸۳ ۱ وَأَنْتُمْ

پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم

حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ۱ ۝۸۴ ۱ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

اس وقت دیکھ رہے ہوں اور ہم اس کے زیادہ

إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝۸۵ ۱

یاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں

فَلَوْ لَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۱ ۝۸۶ ۱

تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملتا نہیں

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۸۷ ۱

کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ۱ ۝۸۸ ۱

پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۝ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۝۸۹

تو راحت ہے اور پھول اور چھینا کے باغ

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ

اور اگر داہنی طرف والوں سے

الْيَمِينِ ۝ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ

یہوں تو اے محبوب تم پر سلام ہو داہنی طرف

الْيَمِينِ ۝ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ

والوں سے اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں

الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۝ فَنُزُلٌ مِّنْ

میں سے ہو تو اس کی مہمانی

حَبِيمٍ ۝ وَتَصْلِيَةٌ جَازِمَةٌ ۝۹۲

کھولنا بانی اور بھڑکتی آگ میں دھنسانا یہ بیشک

هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝ فَسَبِّحْ

اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے تو اے محبوب

بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝۹۴

تو اپنے عظمت والے رب کی بیاکی بولو

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

سورة جمعہ مدینہ میں نازل ہوئی اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

يُسَبِّحُ اللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے

وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقَدُوْسِ

اور جو زمین میں ہے بادشاہ کمال پاکی والا

الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ ۝۱ هُوَ الَّذِیْ

عزت والا حکمت والا وہی ہے جس نے

بَعَثَ فِی الْاَمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ

ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر

یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ

اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں

وَعَلِمَ الْکِتٰبِ وَالْحِکْمَةِ

اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَعَفَى

اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی

ضَلَلٍ مُّبِينٍ ۲۱) وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ

میں تھے اور ان میں سے اوروں کو پاک

لَسْنَا بِدُحْقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ

کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے اور وہی عزت والا

الْحَكِيمُ ۲۲) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ

حکمت والا ہے یہ اللہ کا فضل ہے

يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ

جسے چاہے دے اور اللہ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۲۳) مَثَلُ

بڑے فضل والا ہے ان کی مثال

الَّذِينَ حَبَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ

انہوں نے توریت رکھی گئی تھی پھر

لَمْ يَحْبِلُواهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ

انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی گدھے کی مثال ہے جو

يَجِبِلُّ أَشْفَارًا طِبْسٌ مِّثْلُ الْقَوْمِ

پیلٹھ پر کتابیں اٹھاتے کیا ہی بڑی مثال ہے ان لوگوں کی

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ

جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

ظالموں کو راہ نہیں دیتا

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ

تم فرماؤ اے یہودیو اگر تمہیں یہ گمان

زَعَبْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ

ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور

دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ

لوگ نہیں تو مرنے کی آرزو کرو اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَا يَتَمَنَّوْنَ

تم سچے ہو اور وہ کبھی اس کی

أَبَدًا إِبِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ

آرزو نہ کریں گے ان کو تکوں کے سبب جو انکے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں

عَلَيْمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۱۷﴾ قُلْ إِنْ

اور اللہ ... ظالموں کو جانتا ہے تم فرماؤ وہ

الْمَوْتِ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ

موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں

مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

یعنی ہے ... پھر اس کی طرف پھرے جاؤ گے

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا

جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے پھر وہ تمہیں بتا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

دے گا جو تم نے کیا تھا اے ایمان والو

آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ

جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن

الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

تو ... اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو

وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ فَإِذَا قُضِيَتْ

اگر تم جانو پھر جب نماز

الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ۙ وَإِذَا رَأَوْا

اس امید پر کہ فلاح پاؤں اور جب انھوں نے

تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَ

کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیئے اور

تَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ

تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے تم فرماؤ وہ جو اللہ کے

خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ هُوَ وَمِنَ التِّجَارَةِ

پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے

وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّزِقِينَ ۙ

اور اللہ کارزق سب سے اچھا

سُورَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

سورۃ تغابن مدینہ میں نازل ہوئی اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

يُسَبِّحُ اللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا

اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور

فِي الْاَرْضِ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ

جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ملک ہے اور اسی

الْحَدِّ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۱

کی تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كٰفِرٌ

وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں کوئی کافر

وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

اور تم میں کوئی مسلمان اور اللہ تمہارے کام دیکھ

بَصِيْرٌ ۝۲ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

رہا ہے اس نے آسمان اور زمین حق کے

يَا حَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ

ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی

وَالِيَهُ الْمَصِيْرُ ﴿۳﴾ يَعْلَمُ مَا فِي

اور اسی کی طرف پھرنا ہے جانتا ہے جو کچھ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ

آسمان اور زمین میں ہے اور جانتا ہے

مَا تَسِرُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ط وَاللّٰهُ

جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اور اللہ

عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ﴿۴﴾ اَلَمْ

دلوں کی بات جانتا ہے کیا

يٰۤاَيُّكُمْ نَبِوُۥا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم

مِنْ قَبْلُ زَقٰوْا وَاِيَّا

سے پہلے کفر کیا اور اپنے کام کا وہاں

اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۵﴾

چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے

ذَلِكَ يَأْتِيهِ كَأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ

یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا ابْشِرُوا

رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولے کیا آدمی

يَهْدُونََنَا وَنَنَازِكُوا وَتَوَلَّوْنَا

ہمیں راہ بتائیں گے تو کافر ہوئے اور پھر گئے

وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

اور اللہ بے نیازی کو کام فرمایا اور اللہ بے نیاز ہے

حَمِيدٌ ۙ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا

سب خوبیوں سراہا کافروں نے کہا کہ وہ ہرگز

أَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوا قُلُوبِي وَرَبِّي

نہ اٹھائے جائیں گے تم فرماؤ کیوں نہیں میرے رب کی

لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا

تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر تمہارے کو تک تمہیں جتا

عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

دینے جائیں گے اور یہ اللہ کو

يَسِيرٌ ۝ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ

آسان ہے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول

وَالتُّورِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا

اور اس نور پیر جو ہم نے اتارا اور اللہ تمہارے

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ

کاموں سے خردار ہے جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا

لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۝

سب جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا

وَمَنْ يُّؤۡمِنۡ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلۡ

اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام

صَالِحًا يُّكْفِرۡ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِۦٓ وَ

کرے اللہ اس کی برائیاں اُتار دے گا اور

يُدۡخِلُهٗ جَنَّٰتٍ تَجۡرِيۡ مِنْ تَحْتِهَا

اسے باغوں میں لے جائے جن کے نیچے

الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۝

نہریں بہیں کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں

ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۙ وَالَّذِينَ

یہی بڑی کامیابی ہے اور جنہوں نے

كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ

أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ

آگ والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں

وَيَسَّ الْمَصِيرُ ۙ مَا أَصَابَ مِنْ

اور کیا ہی بُرا انجام کوئی مصیبت نہیں پہنچتی

مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَ

مگر اللہ کے حکم سے اور

مَنْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ

جو اللہ پر ایمان لاتے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرمادے گا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ ۝

اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ

اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو پھر اگر تم

تَوَلَّيْتُمْ فَأِنَّمَا عَلَيَّ رَسُولِنَا الْبَلَّغُ

منہ پھيرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صریح

الْمُبِينُ ﴿۱۳﴾ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

یہی بنا دینا ہے اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۴﴾

اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کریں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن مِّن

اے ایمان والو! تمہاری کچھ

أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَعَدُوِّكُمْ

بیسیاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے

فَاَحْذَرُوا لَهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا فَاصْفَحُوا

احتیاط رکھو اور اگر معاف کرو اور درگزر

وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۵﴾

اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

تمہارے مال اور تمہارے بچے جارح ہی ہیں

وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ⑮ فَاتَّقُوا

اور اللہ کے پاس بڑا نواب ہے تو اللہ

اللَّهُ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَاَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا

سے ڈرو جہاں تک ہو سکے اور فرمان سنو اور حکم مانو

وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو اور جو

يُوقِ شَرَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے

الْمُفْلِحُونَ ⑯ إِنَّ تَقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا

والے ہیں اگر تم اللہ کو ایچھا قرض

حَسَنًا يُّضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

دو گے وہ تمہارے لیے اسکے دو گے کرے گا اور تمہیں بخش دے گا

وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ⑰ عَلِيمُ الْغَيْبِ

اور اللہ قدر فرمانے والا علم والا ہے ہر نہاں اور عیاں کا

وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ⑱

جاننے والا اور عبت والا حکمت والا

سُورَةُ الْمَائِدَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَفِيهَا سُرُكُوعَانِ

سورۃ ملک مکہ میں نازل ہوئی اس میں تیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیْدِهِ الْمُلْكُ

بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا ملک

وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝۱

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ

وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی

لِيَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے

وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ۝۲ الَّذِیْ خَلَقَ

اور وہی عزت والا بخشش والا ہے جس نے سات آسمان

سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَّاتَرٰی

بنائے ایک کے اوپر دوسرا تو رحمن کے

فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوِطِ ط

بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ

تو نگاہ اٹھا کر دیکھتے کوئی رخسہ نظر آتا

فُطُورٍ ۳ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ

ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری

يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعًا

ظن ناکام پلٹ آئے گی

وَهُوَ حَسِيرٌ ۴ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ

تھکی مادی اور بے شک ہم نے پیچھے کے

الدُّنْيَا بِبَصَائِبٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا

آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں

لِلشَّيْطَانِ وَأَعَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ

کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب

السَّعِيرِ ۵ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ابْرِبُّهُمْ

تیار فرمایا اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا

عَذَابُ جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۶

ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی بُرا انجام

إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا

جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا رینکنا سنیں گے

وَأُوهَىٰ تَفُورٌ ۷ تَكَادُ تَمَيَّرُ

کہ جوش مارتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب

مِنَ الْغَيْظِ ط كَلَّمَ الْقَىٰ فِيهَا

میں بھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا

فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ

جائے گا اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرٹا نے

نَذِيرٌ ۸ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا

والا نہ آیا تھا کہیں گے کیوں نہیں بیشک ہمارے پاس ڈرٹا نبوالے

نَذِيرٌ ۹ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ

تشریف لائے پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے

اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ عِجَابٌ إِنَّ أَنْتُمْ لَلْآ

بیکچہ نہیں آتنا تم تو نہیں

فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۙ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا

مگر بڑی گمراہی میں اور کہیں گے اگر ہم

نَسَمِعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ

سننے یا سمجھنے تو دوزخ والوں میں

السَّعِيرِ ۙ فَأَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ

نہ ہونے اب اپنے گناہ کا اقرار کیا

فَسُحِقَاتٍ لِّلْأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۙ إِنَّ

تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو بیشک

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ

وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۙ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۙ

ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے

وَأَسْرُوْا قَوْلَكُمْ وَأَوَّجِهُوْا بِهِ

اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے

إِنَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ الصُّدُورِ ۙ

وہ تو دلوں کی حانت ہے کما وہ

يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيفُ

نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر بارہکی

الْخَبِيرُ ع ۱۳ هُوَ الَّذِي جَعَلَ

جانتا خبردار وہی ہے جس نے تمہارے

لَكُمْ الْأَرْضَ ضَ ذُلُولًا فَاْمَشُوا فِي

لئے زمین رام کر دی تو اس کے رستوں

مَنَّا كَيْهًا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ط وَالْيَهُ

میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی

النُّشُورِ ۱۵ ءَاْمِنْتُمْ مِّنْ فِي

طرف اٹھنا ہے کیا تم اس سے منڈر ہو گئے

السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ الْاَرْضَ

اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے

فَاِذَا هِيَ تَمُورُ ۱۶ اَمْ اَمِنْتُمْ مِّنْ فِي

جبھی وہ کا پیتی رہے یا تم منڈر ہو گئے اس سے جس کی

السَّمَاءِ اَنْ يَّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط

سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ۱۷ ۱۷ وَلَقَدْ

تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا اور بے شک

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

ان سے انگوں نے جھٹلایا

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۱۸ ۱۸ أَوَلَمْ يَرَوْا

تو کیسا ہوا میرا انکار اور کیا انہوں

إِلَى الطَّيْرِ فَوَقَّعَهُمْ صَفًى وَيَقْبِضُ

نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے پھر پھیلاتے اور سمیٹتے

مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ

انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمن کے بے شک

بِكُلِّ شَيْءٍ عَاصِرٍ ۱۹ ۱۹ أَمَّنْ هَذَا

وہ سب کچھ دیکھتا ہے یا وہ

الَّذِي هُوَ جَدُّكُمْ يَنْصُرُكُمْ

کون سا تمہارا شکر ہے کہ رحمن کے مقابل

مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكُفْرَ

تمہاری مدد کرنے کا فائدہ نہیں

إِلَّا فِي غُرُورٍ ۝ ٢١ ۝ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي

مگر دھوکے میں یا کونسا ایسا ہے

يُرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ

جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے

بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۝ ٢٢ ۝

بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیبٹ بنے ہوئے ہیں

أَفَمَنْ يَمُشِي مَكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ

تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے

أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمُشِي سَوِيًّا عَلَىٰ

زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھا چلے

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ٢٣ ۝ قُلْ هُوَ الَّذِي

سیدھی راہ پر تم فرماؤ وہی ہے جس

أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا

اور آنکھ اور دل بنائے کتنا کم

تَشْكُرُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ

حق مانتے ہو تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں

فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۳۴﴾

زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ

اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۵﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ

تم سچے ہو تم فرماؤ یہ علم تو اللہ

عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ

کے پاس ہے اور میں تو صرف یہی ڈر سنانے

مُبِينٌ ﴿۳۶﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئًا

والا ہوں پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں

وَجْوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ

کے منہ سے بیگڑ جائیں گے اور ان سے

هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۳۷﴾

فرما دیا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِی اللّٰهُ

تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے

وَمَنْ مَّعِیَ أَوْ رَحِمَنَا فَمِنْ یُّجِیْرُو

ساتھ والوں کو ہلاک کرے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کونسا ہے

الْکٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابِ الِیْمِ ۝۲۸

جو کافروں کو ڈکھ کے عذاب سے بچالے گا

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ

تم فرماؤ وہی رحمن ہے ہم اس پر ایمان لاتے اور اسی پر

تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِی

بھروسہ کیا تو اب جان جاؤ گے کون کھلی

ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝۲۹ قُلْ اَرَأَیْتُمْ

گمراہی میں ہے تم فرماؤ بھلا دیکھو تو

اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمِنْ

اگر صبح کو تمھارا پانی زمین میں دھسن جائے تو وہ

یَاۤیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا

کون ہے جو تمھیں پانی لائے نگاہ کے سامنے بہتا

سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

سورۃ نوح بکہ میں نازل ہوئی اس کی اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ

بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا

اَنْ اَنْذِرَ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ

کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ

اَنْ يَّاتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

ان پر دردناک عذاب آئے

قَالَ يَقُوْمِرَانِيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ

اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے

مَبِيْنٌ ۝۲ اِنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَالتَّقْوَةَ

والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو

وَاطِیْعُوْكُمْ ۝۳ یَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ

اور میرا حکم مانو وہ تمہارے کچھ گناہ بخش

ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ

دے گا اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں مہلت

مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ

دے گا بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے

لَا يُؤَخِّرْكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۷﴾

بٹایا نہیں جاتا کسی طرح تم جانتے

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي

عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو

لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿۵﴾ فَلَمَّ يَزِدْهُمْ

رات دن بلایا تو میرے بلانے سے

دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا ﴿۶﴾ وَإِنِّي كَلِمًا

انہیں بھاگتا ہی پڑا اور میں نے جتنی بار

دَعَوْتَهُمْ لَتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا

انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے انہوں نے

أَصَابِعَهُمْ فِي إِذْ أَنهَمْ وَاسْتَعْشُوا

اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے

ثِيَابِهِمْ وَاصْرُوا وَاسْتَكَبِرُوا

اور ٹھہریے اور ہٹ کی اور بڑا غرور

اسْتِكْبَارًا ۛ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ

کیا پھر میں نے انھیں علانیہ

جَهَارًا ۛ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ

بلایا پھر میں نے ان سے باعلان بھی کہا

وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۛ فَقُلْتُ

اور آہستہ خفیہ بھی کہا تو میں نے کہا

اسْتَغْفِرُوا لِزَلَّاتِهِ كَانِ

اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف فرمانے

عَفَارًا ۛ يَرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ

والا ہے تم پر نثر اٹے کا مینہ

مِدْرَارًا ۛ وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ

بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمھاری

وَيُنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ

مدد کرے گا اور تمھارے لئے باغ بنا دے گا

وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۱۲ ط مَا لَكُمْ

اور تمہارے لئے نہریں بنائے گا تمہیں کیا ہوا

لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۱۳ ج وَقَدْ

اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے حالانکہ

خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۱۴ اَلَمْ تَرَوْا

اس نے تمہیں طرح طرح بنایا کی تم

كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ

نہیں دیکھتے اللہ نے کیونکر سات آسمان بنائے ایک پر

طَبَاقًا ۱۵ ل وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ

ایک اور ان میں چاند کو روشن

نُورًا ۱۶ اَوْ جَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۱۷

کیا اور سورج کو چراغ

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

اور اللہ نے تمہیں بننے کی طرح زمین سے

نَبَاتًا ۱۸ ل ثُمَّ يَعِيدُكُمْ فِيهَا

اُگایا پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا

وَيُخْرِجِكُمْ أُخْرَاجًا ۝۱۸ وَاللَّهُ

اور دوبارہ نکالے گا اور اللہ

جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝۱۹

نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنا یا

لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝۲۰

کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو

قَالَ نُوحٌ رَبِّ انْهَمْ عَصَوْنِي

نوح نے عرض کی اے میرے رب انھوں نے میری نافرمانی کی

وَاتَّبِعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالًا وَ

اور ایسے کے پیچھے ہو لئے جسے اس کے مال اور

وَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۝۲۱ وَمَكَرُوا مَكْرًا

اولاد نے نقصان ہی بڑھایا اور بہت بڑا

كِبْرًا ۝۲۲ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ

داؤں کھیلے اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا

الِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا

خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا و د

وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعْثُوثًا وَ

اور سواع اور یعثوث اور

يَعْقُوقًا وَنَسْرًا ۲۳ وَقَدْ أَضَلُّوا

یعوق اور نسر کو اور بیشک انھوں نے

كَثِيرًا ۲۴ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ

بہتوں کو بہکایا اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا

إِلَّا ضَلَالًا ۲۵ مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ

مگر گمراہی اپنی کیسی خطاؤں پر

أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَكَلِمًا

ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کئے گئے تو انھوں

يَجِدُوا وَاللَّهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار

أَنْصَارًا ۲۶ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ

نہ بابا اور نوح نے عرض کی اے

لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ

بیرے رب زمین پر کافروں میں سے

تَبَارَكَ الَّذِي يَرِي ۱۵
الْكُفْرَيْنِ ذَيْبَارًا ۳۶ اِنَّكَ

کوئی بنے والا نہ بھوڑ بیشک اگر تو

اِنْ تَذَرَهُمْ يَضَلُّوا عِبَادَكَ

انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے

وَلَا يَلِدُ وَاِلَّا فَاِجْرًا

اور ان کے اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی

كَفَّارًا ۳۷ رَبِّ اغْفِرْ لِي

مگر بدکار بڑی ناشکر اے میرے رب مجھے بخش دے

وَالِوَالِدَيَّْ وَلِمَنْ دَخَلَ

اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ

بَيْتِي مُؤْمِنًا وَالْمُؤْمِنِينَ

میرے گھر میں ہے اور سب مسلمان مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ ط وَالْاِتِّزَادِ الظَّالِمِينَ

اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا

اِلَّا تَبَارَكَ ۳۸

مگر تنہا ہی

سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

سورۃ جن مکہ میں نازل ہوئی اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

قُلْ اَوْحٰی اِلَیَّ اَنْتَ اَسْمَعُ

تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا

تَفَرَّقَ مِنْ الْجِنَّ فَكَلَوْا اِنَّا

پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم

سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝۱۱ یَهْدِیْ

نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی

اِلَی الرُّشْدِ فَاَمَّا بِنَابِهِ ط وَلٰكِنْ

راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز

نَشْرُکَۃًۢ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا ۝۱۲ وَاِنَّ

کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے اور یہ کہ

تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَاۤ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً

ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے عورت اختیار کی

وَلَا وَكَذَٰلِكَ ۝۳۰ وَأَتَّهَّكَ بِقَوْلِ

اور نہ بچھ اور یہ کہ ہم میں کا بے وقت

سَفِيهُمَنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝۳۱

اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا

وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نَقُولَ

اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز آدمی

الْإِنْسِ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝۳۲

اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ

اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ

يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ

مردوں کے پناہ لیتے تھے تو اس

فَزَادُواهُمْ رَهِقًا ۝۳۳ وَأَنَّهُمْ

سے اور بھی ان کا بگڑھ اور یہ کہ

ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ لَنْ

انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے

تَابِعَتْ اللَّهُ أَحَدًا ۝ وَأَنَا

کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا اور یہ کہ

لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا

ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت

مُلَيْتٌ حَرًّا شَدِيدًا وَشَهَبًا ۝

پہرے اور آگ کی چنگاروں سے بھر دیا گیا ہے

وَأَنَا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا

اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے

مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۝ فَمَنْ يَسْتَمِعِ

کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے پھر اب جو کوئی سنے

الآن يَجِدُ لَهُ بُشَاهًا رَصَدًا ۝

وہ اپنی تاک میں آگ کا لوکا پائے

وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ

اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی

بَيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْرًا أَرَادَ

بیزاری کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے

بِهِمْ رَبًّا بِهْمُ رَبًّا شَدًّا ۱۰ وَآنَا

رب نے کوئی بھلائی جاہی ہے اور یہ کہ

مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ

ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح

ذَلِكَ كُنَّا ظَرَآئِقَ قَدَدًا ۱۱

کے ہیں ہم کئی راہیں بھٹے ہوئے ہیں

وَآنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَنَا كَرِيمًا

اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں

اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَلَكِن نُّعِذِرُ

اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضہ

هَرَبًا ۱۲ وَآنَا لَسْنَا بِمُعْتَدًا

سے باہر ہوں اور یہ کہ ہم نے جب

الْهُدَىٰ أَمْثَلَهُ فَمِنْ يَوْمٍ

ہدایت حسنی اس پر ایمان لائے تو جو اپنے رب پر

رَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا

ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف اور نہ

رَافِقًا ۱۳ وَآتَانَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

زیادتی کا اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں

وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۱۴ فَمَنْ أَسْلَمَ

اور کچھ ظالم تو جو اسلام لائے

فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۱۵

انہوں نے بھلائی سوچی

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ

اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن

حَاطِبًا ۱۶ وَأَنْتُمْ لَوْ اسْتَقَامُوا

ہوئے اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی

عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً

بے کہ اگر وہ راہ پر بیدھ رہتے تو ضرور ہم انہیں

غَدَقًا ۱۷ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۱۸

وافریانی دیتے کہ اس پر انہیں جانچیں

وَمَنْ يَعْزُضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ

اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے

يَسْأَلُكَ عَدَايَا صَعْدًا ۱۷ وَآن

وہ اسے پڑھتے عذاب میں ڈالے گا اور یہ کہ

الْمَسْجِدِ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ

مسجد میں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی

أَحَدًا ۱۸ وَآيَاتِهِ لِمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ

بندگی نہ کرو اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی

يَدْعُوهُ كَادُوا يُكُونُونَ عَلَيْهِ

بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر بھٹکے بھٹکے

لِبَدَا ۱۹ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي

ہو جائیں تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں

وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۲۰ قُلْ

اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا تم فرماؤ

إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا

میں تمہارے کسی بڑے بھلے کا ناک

رَأْسًا ۲۱ قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرَنِي

نہیں تم فرماؤ بہرگز مجھے اللہ سے

مِنَ اللّٰهِ أَحَدٌ ۚ وَلٰكِنۡ أٰجِدُ مِنْ

کوئی نہ پہچانتے گا اور ہرگز اس کے سوا

دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۙ اِلَّا بَلَاغًا

پسناہ نہ پاؤں گا مگر اللہ کے پیام

مِّنَ اللّٰهِ وَرِیَاسَاتِهٖ ۙ وَمَنْ یَّعِصِ

پہنچاتا اور اس کی رسالتیں اور جو اللہ اور اس

اللّٰهِ وَرَسُوْلَهٗ ۙ فَاِنَّ نَارَ جَهَنَّمَ

کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لئے جہنم کی آگ

خٰلِدِیْنَ فِیْهَا اَبَدًا ۙ حَتّٰی اِذَا

ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں یہاں تک کہ جب

بَرَاۤءًا وَّ اٰمًا یُّوْعَدُوْنَ ۙ فَسَیَعْلَمُوْنَ مَنْ

دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے

اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقْلُ عَدَدًا ۙ

کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم

قُلۡ اِنَّ اَدْرٰیۤیۡ اَقْرَبُ مَا

تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ

تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي

جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا

أَمَدًا ۲۵ عَلِيمِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ

غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی

عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۲۶ إِلَّا مَنْ

کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے

أُرْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ

پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

پہرے مقدر کرتا دیتا ہے

رَاصِدًا ۲۷ لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا

تاکہ دیکھ لے کہ انھوں نے اپنے رب کے

رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ

پیام پہنچا دیتے اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کے علم

وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۲۸

میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے

سُورَةُ الْمَزْمَلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ عِشْرُونَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

سورہ مزمل مکہ میں نازل ہوئی اس میں بیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ ۝

اے جھڑٹ مارنے والے رات

الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

میں قیام فرما سوا کچھ رات کے آدھی رات

أَوْ أَنْقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر

عَلَيْهِ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

کچھ پڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو

إِنَّا سَنُلْقِيْكَ قَوْلًا

بے شک عنقریب ہم تم پر ایک بھاری بات

ثَقِيلًا ۝

ڈالیں گے بے شک رات کا اٹھنا

هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً ۖ ④

وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی کہلتی ہے

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا

بے شک دن میں تو تم کو بہت سے

طَوِيلًا ۖ ⑤ وَأَذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ

کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو

وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۖ ⑧ رَبُّ

اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو وہ

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ

پروردگار کا رب اور پیچھم کا رب اس کے سوا کوئی

إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۖ ⑨

معبود نہیں تو تم اسے اپنا کارساز بناؤ

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ

اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں

هَجِرًا جَبِيلًا ۖ ⑩ وَذَرْنِي

اچھی طرح چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑو

وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلُمُ

ان جھٹلانے والے مالداروں اور انھیں حضورؐ کی

قَلِيلًا ۱۱ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَ

مہلت دو بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور

جَجِيمًا ۱۲ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ

بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا

وَعَذَابًا أَلِيمًا ۱۳ يَوْمَ تَرْجُفُ

اور دردناک عذاب جس دن محضر خضرائیں گے

الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتْ

زمین اور پہاڑ اور پہاڑ

الْجِبَالُ كَثِيرًا مَّهِيلًا ۱۴ إِنَّ

ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا بے شک

أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا

ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر

عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ

ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف

فِرْعَوْنَ رَأْسُورًا ۱۵ فَعَصَى فِرْعَوْنُ

رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم

الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۱۶

نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ

پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن

يَوْمَ مَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۱۷

جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا

السَّمَاءِ مُنْقَطِرٍ بِهِ ۱۸ وَوَعْدَهُ

آسمان اس کے صدمہ سے پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ

مَفْعُولًا ۱۹ إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ

ہو کر رہنا بے شک یہ نصیحت ہے

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ

تو جو چاہے اپنے رب کی طرف

سَبِيلًا ۲۰ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ

راہ لے رہے ہو تمہارا رب جانتا ہے کہ تم

تَقُومُواْ اَدْنٰی مِنْ ثُلُثِی الْاَیْلِ

قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب

وَ نِصْفَہٗ وَ ثُلُثَہٗ وَ طَآئِفَہٗ

کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت

مِّنَ الَّذِیْنَ مَعَكَ وَاللّٰهُ یَقْدِرُ

تمہارے ساتھ والی اور اللہ رات اور دن

الْاَیْلِ وَ النَّہَارِ طَعْمًا لِّمَنْ رَّحِصَہٗ

کا اندازہ فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ مسلمانوں میں سے رات کا شمار نہ

فَتَابَ عَلَیْكُمْ فَاَقْرِعُوا مَائِیْسِرَہٗ

ہو سکے گا تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی اب تو قرآن میں سے

مِنَ الْقُرْآنِ طَعْمًا لِّمَنْ سَیْکُونُ

جنتنا تم پر آسان ہوا اتنا پڑھو اسے معلوم ہے کہ عنقریب کچھ

مِّنْکُمْ مَّرْضٰی وَاٰخِرُونَ یَضْرِبُونَ

تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر

فِی الْاَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ

کریں گے اللہ کا فضل تلاش

اللَّهُ وَالْآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي

کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے

سَبِيلِ اللَّهِ نَاقِرَةٌ وَآمَاتِيْسَر

ہوں گے تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو

مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو

وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا

اور اللہ کو اچھا قرض دو اور

تُقَدِّمُوا رَأْسُفِيْكُمْ مِنْ خَيْرِ

اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجے گے اسے

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ

اللہ کے پاس بہتر اور بڑے

أَجْرًا طَوَّافًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ

تو اب کی بناؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۲۰

بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعُونَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

سورۃ نبأ مکہ میں نازل ہوئی اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۝۱ عَنِ النَّبَاِ

یہ آیتیں میں کاہے کی بوجھ کچھ کر رہے ہیں بڑی خبر

الْعَظِیْمِ ۝۲ الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ

کی جس میں وہ کئی

مُخْتَلِفُونَ ۝۳ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝۴

راہ ہیں ہاں ہاں اب جان جائیں گے

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝۵ اَلَمْ

پھر ہاں ہاں اب جان جائیں گے کیا

نَجْعَلِ الْاَرْضَ ضَرْحًا ۝۶ وَ

ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور

الْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝۷ وَخَلَقْنَاكُمْ

پہاڑوں کو میچیں اور تمہیں

۱۴۲
اِنَّا وَاجِبًا ۸ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ

جوڑے بنا یا اور تمھاری نیند کو آرام

سُبَاتًا ۹ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۱۰

کا اور رات کو پیرودہ پوشش کا

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۱۱

اور دن کو روزگار کے لیے بنا یا

وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۱۲

اور تمھارے اوپر سات مضبوط میناٹیاں ہیں

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۱۳

اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ

اور پھر بدلیوں سے زور کا

مَاءً ثَمَرًا ۱۴ لِنُخْرِجَ بِهِ

پانی تمھارا کہ اس سے پیدا فرمائیں

حَبًا وَنَبَاتًا ۱۵ وَجَنَّتِ

اناج اور سبزہ اور گھنے

الْفَافًا ۱۴ إِنَّكَ يَوْمَ الْفَصْلِ

باغ بے شک فیصلہ کا دن

كَانَ مِيقَاتِنَا ۱۵ يَوْمَ يَنْفَخُ

کھڑا ہوا وقت ہے جس دن صور

فِي الصُّورِ فَتَكُونُ أَفْوَاجًا ۱۸

پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ

اور آسمان کھولا جائے گا کہ دروازے ہوا

أَبْوَابًا ۱۹ وَسِيرَتِ الْجِبَالُ

جائے گا اور بہاڑ بھلائے جائیں گے

فَكَانَتْ سَرَابًا ۲۰ إِنَّ جَهَنَّمَ

کہ جیسے چمکتا رہتا دور سے پانی کا دھوکا دیتا بے شک جہنم

كَانَتْ مِرْصَادًا ۲۱ لِلظَّالِمِينَ

تاک میں ہے سرکشوں کا

مَا يَأْتِي ۲۲ لِبِشْرٍ فِيهَا أَحْقَابًا ۲۳

کھٹکانا اس میں قزوں رہیں گے

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا

اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں اور نہ

شَرَابًا ۲۳ إِلَّا حَمِيمًا وَعَسَاقًا ۲۵

کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخوں کا جلتا پیپ

جَزَاءً وَفَاقًا ۲۴ إِنَّهُمْ كَانُوا

جسے کو جیسا بدلہ بے شک انہیں

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۲۶ وَكَذَّبُوا

حساب کا خوف نہ تھا اور انہوں نے

بِآيَاتِنَا كَذِبًا ۲۸ وَكُلَّ شَيْءٍ

ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں اور ہم نے ہر چیز

أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۲۹ فَذُوقُوا قَلْبًا

لکھ کر شمار کر رکھی ہے۔ اب چکھو کہ ہم

تَزِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۳۰ إِنَّ

تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب بے شک

لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۳۱ حَدَّ آيَاتِنَا

ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔ باغ ہیں

وَاعْتَابَا ۙ وَكَوَا عِبَ اٰثْرَابَا ۙ

اور انگور اور اٹھتے جوین والیاں ایک عمر کی

وَكَاسًا دِهَاقًا ۙ لَا يَسْعَوْنَ

اور بھلکتا جام جس میں نہ کوئی

فِيْهَا لَغْوًا وَّ اَدْرَاٰجًا ۙ جَزَاءً

بے ہودہ بات میں نہ جھٹلانا صلہ

مِنْ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۙ

تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَمَا

وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو

بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنُ لَا يَمْلِكُوْنَ

بیکھ ان کے درمیان ہے رحمن کہ اس سے مات کرنے کا

مِنْهُ خِطَابًا ۙ يَوْمَ يَقُوْمُ

اختیار نہ رکھیں گے جس دن جبریل کھڑا

الرُّوْحُ وَاَلْمَلٰئِكَةُ صٰفًّا لَا

ہوگا اور سب فرشتے پورا باندھے کوئی

بَتَّكَ لَمُونَ إِلَّا مَنْ أَدَانَ

نہ بول سکے گا مگر جسے رحمن

لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی

ذَلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ فَسَنُ

وہ سچا دن ہے اب جو

تَتَّكُوا تَأْخُذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَآءًا ﴿٣٩﴾

چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنائے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۖ

ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈرانے ہیں کہ نزدیک آگیا

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمُرْءُ مَا قَدَّمَتْ

جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے

يَدَاہُ وَيَقُولُ الْكُفْرُ لِي تَنِي

بھیجا اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح

كُنْتُ مُشْرِكًا ﴿٤٠﴾

خاک ہو جاتا

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ عَشْرَةَ آيَةً

سورۃ طارق مکی ہے اور اس میں سترہ (۱۷) آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ

آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی اور کچھ تم نے جانا وہ

مَا الطَّارِقِ ۝ النّٰجْمِ الثَّاقِبِ ۝

رات کو آنے والا کیا ہے خوب چمکتا ستارا

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ

تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا

مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِنْ

کرنے پانی سے جو نکلتا ہے پیلیٹ

بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ

اور سینوں کے بیچ سے بے شک

عَلَى رَجْعِهِ لِقَادِرًا ۸ ط يَوْمَ تَبْيَأُ

اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے جس دن چھپی باتوں کی

السَّرَائِرُ ۹ لا فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا

جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا اور نہ کوئی

نَاصِرٍ ۱۰ ط وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۱۱ لا

مددگار آسمان کی قسم جس سے مینہ اترتا ہے

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۱۲ لا إِنَّهُ

اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے بیشک قرآن

لَقَوْلٍ فَصْلٌ ۱۳ لا وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۱۴ ط

ضرور فیصلہ کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۱۵ لا وَأَكِيدُ

بے شک کافر اپنا سا داؤں پھلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ

كَيْدًا ۱۶ ص وَالْكٰفِرِينَ اَمْهَلُمْ

تدبیر فرماتا ہوں تو تم کافروں کو ڈھیل دو انہیں کچھ

رُؤْيَا ۱۷ ع وَالْوَيْدِ ۱۸ ع

مخوڑی مہلت دو

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً

سورة الفجر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں تیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

وَالْفَجْرِ ۝۱ وَ لَيْلٍ عَشْرٍ ۝۲

اس صبح کی قسم اور دس راتوں کی

وَالشَّفْعِ ۝۳ وَالْوَتْرِ ۝۴ وَاللَّيْلِ ۝۵

اور جفت اور طاق کی اور رات کی

اِذَا يَسِرُّ ۝۶ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ

جب چلے کیوں اس میں عقل مند

مَسْمُورٍ ۝۷ لِّذِيْ حِجْرِ ۝۸ اَلَمْ

کے لیے قسم ہوئی کیا تم

تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ

نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ

بِعَادٍ ۝۹ اِذَا رَدَّتْ الْعِمَادُ ۝۱۰

کیسا کیا وہ اہم حد سے زیادہ طول والے

الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ مِثْلَهَا

جس کا ایسا نہیں ہے جیسا کہ ان شہروں میں

فِي الْبِلَادِ ۝۸۰ وَثَمُودَ الَّذِينَ

پیدا نہ ہوئے اور ثمود جنہوں نے وادی

جَا بُو الصَّخْرِ بِالْوَادِ ۝۹۰

میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں

وَفِرْعَوْنَ الَّذِي الْاَوْتَادِ ۝۱۰۰

اور فرعون جس نے چوہینھا کرتا

الَّذِينَ طَعَنُوا فِي الْبِلَادِ ۝۱۱۰

جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی

فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝۱۲۰

پھر ان میں بہت فساد پھیلایا

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ

نوبت ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا

عَذَابٍ ۝۱۳۰ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ۝۱۴۰

بقوت باران بیشک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں

فَأَمَّا إِذَا نُسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ

لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے

رَابَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ

کہ اس کو جاہ اور نعمت دے

فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝^ط

جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ

اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر

عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَ يَقُولُ رَبِّي

تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے

أَهَانَنِ ۝^ج كَلَّا بَلْ لَأَ

خوار کیا یوں نہیں بلکہ

يُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝^{لا} وَلَا

تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور آپس

بِأَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝^{لا}

میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے

وَمَا تَكُونُ الثَّرَاتُ أَكْلًا

اور میراث کا مال ہب ہب کھاتے

لَسَاءَ لَكُمْ ۝۱۹ ۝ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ

ہو اور مال کی نہایت محبت

حُبًّا جَبًّا ۝۲۰ ۝ كَلَّا إِذَا

رکھتے ہو ہاں ہاں جب

دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝۲۱ ۝

زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ

اور تمہارے رب کا ہم آئے اور فرشتے

صَفَّاصِفًا ۝۲۲ ۝ وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ

قطار قطار اور اس دن جہنم

بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ

رلائیں جائے اس دن آدمی سوچے گا

الْإِنْسَانُ وَآتَىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۝۲۳ ۝

اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٢﴾

کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتنے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی

فِيَوْمٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ

تو اس دن اس کا سزا عذاب کوئی نہیں

أَحَدٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُؤْتِقُ وَثَاقَهُ

کرتا اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں

أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ

باندھنا اے اطمینان

الْبَطِينَةَ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي إِلَىٰ

والی جان اپنے رب کی طرف

رَأْبِكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً ﴿٢٨﴾

واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَاَدْخُلِي

پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت

جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

میں آ

سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ آيَاتٍ

سورۃ کافرون مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں چھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝۱

تم اے کافرو

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝۲

نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو

وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا

اور نہ تم پوجتے ہو جو میں

أَعْبُدُ ۝۳ وَلَا أَنَا عَابِدٌ

پوجتا ہوں اور نہ میں پوجوں گا

مَّا عَبَدْتُمْ ۝۴ وَلَا أَنْتُمْ

جو تم نے پوجا اور نہ تم

عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ۝۵ لَكُمْ

پوجوں گے جو میں پوجتا ہوں تمہیں

دِينُكُمْ وَرَبِّي دِينٌ ④

تمہارا دین اور مجھے میرا دین

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعُ اَيَاتٍ

سورۃ اخلاص مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں چار آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ①

اللہ کے نام شروع جو نہایت مہربان رحم والا

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ①

تم فرماؤ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے

اللّٰهُ الصَّمَدُ ②

اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی

يَلِدُ ③ وَ لَمْ يُولَدْ ④

کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا

وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا ⑤

اور نہ اس کے جوڑ

أَحَدٌ ⑤

کا کوئی

سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ

سورہ فلق مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

اس کی سب مخلوق کی شر سے اور

مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب

وَقَبَّ ۝ وَ مِنْ شَرِّ الْوَقْتِ

وہ ڈوبے اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں

فِي الْعُقَدِ ۝ وَ مِنْ شَرِّ

میں بھونکتی ہیں اور حسد والے کے شر سے

حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

جب وہ مجھ سے جلے

سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّ آيَاتٍ

سورہ ناس مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں چھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب

مَلِکِ النَّاسِ ۝

سب لوگوں کا بادشاہ سب

النَّاسِ ۝

لوگوں کا خدا اس کے شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے

الْحٰثِمِ النَّاسِ ۝

اور دیک رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں

فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝

دوسرے ڈالتے ہیں جن

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

اور آدمی

آیت الکرسی

آیت الکرسی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ اور اوروں کا

الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا

قائم رکھنے والا اسے نہ اونگھ آئے اور نہ

نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ

اور جو کچھ زمین میں وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش

عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ

کسے بیابے اس کے علم کے جانتا ہے

مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے

وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ

اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے

إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی میں سمائے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ

ہوتے ہیں آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں

حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

ان کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے

عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى

(اس سے) پاک ہے اور پیغمبروں پر

الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سلام اور سب طرح کی تعریف

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

خدا کے رب العالمین کو (سزاوار) ہے

اسماء الحسنی باری تعالیٰ عز اسمہ

باری تعالیٰ عز اسمہ کے اسمائے حسنی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ جَلَّ جَلَالُهٗ

وہ ذات پاک اللہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہ بہت رحم کرنے والا (بڑا ہے مرتبہ اس کا)

الرَّحِیْمُ	الْمَلِکُ	الْقُدُّوسُ	السَّلَامُ
مہربان	بادشاہ	پاک	سلامت رکھنے والا
الْمُؤْمِنُ	الْمُهَیْمِنُ	الْعَزِیْزُ	الْجَبَّارُ
امن دینے والا	نگہبان	غالب	نقصان کو یوراکرنے والا
الْمُبْدِیُّ	الْخَالِقُ	الْبَارِئُ	الْمُصَوِّرُ
بڑائی والا	بیدا کرنے والا	عالم کا بنانے والا	صورت بنانے والا
الْغَفَّارُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ	الرَّزَّاقُ
بخشنے والا	زبردست	بخشنے والا	رزق دینے والا
الْقَابِضُ	الْعَلِیْمُ	الْبَاسِطُ	
کھولنے والا	جاننے والا	بند کرنے والا	کھولنے والا

لہ: تمام اسماء کے ساتھ جَلَّ جَلَالُهٗ کا پڑھنا افضل ہے۔

الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ

پست کرنے والا

بلند کرنے والا

عزت دینے والا

خوار کرنے والا

السَّيِّئُ

سننے والا

الْبَصِيرُ

دیکھنے والا

الْحَكَمُ

حاکم

الْعَدْلُ

عدل کرنے والا

اللطيفُ

باریک بین

الْخَبِيرُ

خبردار

الْحَلِيمُ

بردار

الْعَظِيمُ

بزرگ

الْغَفُورُ

بخشنے والا

الشُّكُورُ

شکر پسند

الْعَلِيُّ

بلند

الْكَبِيرُ

بڑا

الْحَفِيفُ

نگہبان

الْمُقِيتُ

قوت دینے والا

الْحَسِيبُ

کافی

الْجَلِيلُ

بزرگ

الْكَرِيمُ

سخی

الرَّقِيبُ

نگہبان

الْمُجِيبُ

قبول کرنے والا

الْوَاسِعُ

فراخی دینے والا

الْحَكِيمُ

حکمت والا

الْوَدُودُ

دوست

الْمَجِيدُ

بزرگ

الْبَاعِثُ

اٹھانے والا

الشَّهِيدُ

گواہ

الْحَقُّ

سچا

الْوَكِيلُ

کارساز

الْقَوِيُّ

طاقت والا

الْمُحْصِي	الْحَمِيدُ	الْوَلِيُّ	الْمَتِينُ
------------	------------	------------	------------

گھیرنے والا

قابل تعریف

دوست

مضبوط

الْمُبْدِي	الْمُحْيِي	الْمُعِيدُ	الْمُسَيِّئُ
------------	------------	------------	--------------

مارنے والا

زندہ کرنے والا

دوبارہ پیدا کرنے والا

پہلے پیدا کرنے والا

الْمَحْيُ	الْوَاوِدُ	الْقَيُّومُ	الْمَبَاجِدُ
-----------	------------	-------------	--------------

بزرگی والا

پانے والا

ہمیشہ رہنے والا

زندہ

الْقَادِرُ	الضَّمَدُ	الْأَحَدُ	الْوَاحِدُ
------------	-----------	-----------	------------

قدرت والا

بے نیاز

اکیلا

ایک

الْمُقَدِّرُ	الْمُؤَخَّرُ	الْمُقَدِّمُ	الْأَوَّلُ
--------------	--------------	--------------	------------

اول

پچھلا

پہلا

صاحب قدرت کا

الْوَالِي	الْبَاطِنُ	الظَّاهِرُ	الْآخِرُ
-----------	------------	------------	----------

کارساز

پوشیدہ

آشکارا

آخر

الْمُنْعَمُ	الْتَّوَابُ	الْبِرُّ	الْمُنْعَالِي
-------------	-------------	----------	---------------

انعام دینے والا

توبہ قبول کرنے والا

احسان کرنے والا

بے برتر

الْمَنْقَمُ	الرَّءُوفُ	الْعَفْوُ	مَالِكُ الْمَلِكِ
-------------	------------	-----------	-------------------

بدلہ لینے والا

بہت مہربان

معاف کرنے والا

مالک ملک کا

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الرَّبُّ

صاحب بزرگی اور بخشش کا پالنے والا

الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمَغْنِيُّ

عدل کرنے والا جمع کرنے والا بے پرواہ دولت مند کرنے والا

الْمُعْطَى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ

دینے والا منع کرنے والا ضرر دینے والا نفع دینے والا

النُّورُ الْهُدَى الْبَدِيعُ الْبَارِقُ

روشنی والا راہ دکھانے والا نیا پیدا کرنے والا ہمیشہ رہنے والا

الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ الَّذِي لَيْسَ

مالک رہنا بڑا تحمل والا وہ ذات کہ نہیں اسکی

كَيْفَ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ غُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَ

مانند کوئی اور وہ ہے سُننے والا دیکھنے والا تیری بخشش چاہیے اے رب بکالے اور

إِلَيْكَ الْمَصِيرُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

تیری طرف رجوع ہے کیا خوب مولیٰ ہے اور کیا خوب مددگار سُننے والا دیکھنے والا

عَلِيمٌ قَدِيرٌ مَزِيدٌ مُتَكَلِّمٌ

جاننے والا قدرت والا ارادے والا کلام کرنے والا

اسماء مقدسہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے مقدسہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے

مُحَمَّدٌ	أَحْمَدٌ	حَامِدٌ	مَحْمُودٌ
-----------	----------	---------	-----------

تعریف والا	سب سے زیادہ حمد کرنی والا	سراہنے والا	سراہا گیا
------------	---------------------------	-------------	-----------

قَاسِمٌ	عَاقِبٌ	فَاتِحٌ	خَاتِمٌ
---------	---------	---------	---------

بانٹنے والا	پیچھے آنے والا	کھولنے والا	ختم کرنے والا
-------------	----------------	-------------	---------------

حَاشِرٌ	مَاجِحٌ	دَاجِحٌ	سِرَاجٌ
---------	---------	---------	---------

اٹھنے والا	محو کرنے والا	بلانے والا	چراغ
------------	---------------	------------	------

رَشِيدٌ	مُنِيرٌ	بَشِيرٌ	نَذِيرٌ
---------	---------	---------	---------

نیک	نور والا	خوشخبری دینے والا	ڈرانے والا
-----	----------	-------------------	------------

مَادٍ	مُهْدٍ	رَسُولٌ	نَبِيٌّ
-------	--------	---------	---------

بادی	ہدایت والا	رسول	نبی
------	------------	------	-----

طَهٌ	يَسٌ	مُزْمِلٌ	مُدَثِّرٌ
------	------	----------	-----------

ناظم	یس	کملی والا	چادر اوڑھنے والا
------	----	-----------	------------------

شَفِيعٌ	خَلِيلٌ	كَلِيمٌ	جَبِيْبٌ
شفاعت والا	دوست، جانی	کلام کرنے والا	دوست
مُصْطَفَى	مُرْتَضَى	مُجْتَبَى	مُخْتَارٌ
پُچنا ہوا	برگزیدہ	پُچنا ہوا	پسندیدہ
نَاصِرٌ	مَنْصُورٌ	قَائِمٌ	حَافِظٌ
مدد دینے والا	مدد دیا گیا	تائم	حافظ
شَهِيدٌ	عَادِلٌ	حَكِيمٌ	نُورٌ
گواہ	عدل والا	حکمت والا	نور
حُجَّةٌ	بُرْهَانٌ	أَبْطَحَى	مُؤْمِنٌ
دلیل	حجت	ابطح والا	ایمان والا
مُطِيعٌ	مُذَكِّرٌ	وَاعِظٌ	أَمِينٌ
تابع دار	نصیحت کرنے والا	واعظ	امانت دار
مَدَنِيٌّ	عَرَبِيٌّ	هَاشِمِيٌّ	تِهَامِيٌّ
مدینہ والا	عرب والا	ہاشمی	تہامی
حِجَازِيٌّ	نِزَارِيٌّ	قُرَيْشِيٌّ	مُضَرِّيٌّ
حجاز والا	مضر بن نزار کی اولاد سے	قریشی	مضر والا

رَعُوفٌ	حَرِيصٌ	عَزِيزٌ	اُمِّيٌّ
نرم دل	حرص کرنے والے (لوگوں کو لگانے کیلئے)	غالب	بن پڑھا
جَبَّادٌ	غَنِيٌّ	يَتِيْمٌ	رَحِيْمٌ
سختی	بے پرواہ	یتیم	رحم والا
ظَاهِرٌ	طَيِّبٌ	عَالِمٌ	فَاتِحٌ
پاک کرنے والا	پاک	جاننے والا	فتح کرنے والا
سَيِّدٌ	فَصِيْحٌ	خَطِيْبٌ	مُظَهَّرٌ
سردار	عمدہ بیان والا	واعظ	پاکیزہ
شَافٍ	بَاطِنٌ	اِمَامٌ	مُنْتَقِيٌّ
شفا دینے والا	نیک	پیشوا	پاک کرنے والا
مَهْدِيٌّ	مُتَّصِدِقٌ	سَابِقٌ	مُتَوَسِّطٌ
ہدایت والا	میانہ رو	آگے جانے والا	متوسط
اِخْرٌ	اَوَّلٌ	مُبِيْنٌ	خَفِيٌّ
پچھلا	اول	ظاہر	مخفی
مُحَلِّلٌ	رَحْمَةٌ	بَاطِنٌ	ظَاهِرٌ
حلال کرنے والا	رحمت	چھپا	ظاہر

مُحَرَّمٌ	اِمْرٌ	صَادِقٌ	مُصَدِّقٌ
-----------	--------	---------	-----------

حرام کرنے والا

حکم دینے والا

سچا

سچ بولنے والا

نَاطِقٌ

صَاحِبٌ

مَكِّيٌّ

نَآءٌ

بولنے والا

صاحب

مکے والا

منع کرنے والا

شَاكِرٌ

قَرِيبٌ

مُنِيبٌ

مُبَلِّغٌ

شکر گزار

قریب

رجوع کرنے والا

پہنچانے والا

طَسٌّ

حَمٌّ

جَبِيبٌ

أَوْلَى

طس

حم

محبوب

بہتر

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولٍ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَ

اور رحمت اللہ تعالیٰ کی

اوپر رسول بہترین خلقت اس کی کے سردار ہمارے اور

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَارْوَابِهِ

مولی ہمارے محمد جو امی نبی ہیں اور آل ان کے اور اصحاب ان کے اور ارواب ان کے

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِيمٌ

او اولاد ان کی کے اور اہل بیت ان کی کے اور برکتیں اور رحمتیں سب پر بھیجے سب زیادہ رحمتیں نازل فرمائے

الرَّحِيمِينَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

تو ہی رحمتوں کا نازل کرنے والا ہے اے سیرت مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تو ہی سب بہتر رحم کرنے والا ہے

Marfat.com

هَذِهِ الْأَسْمَاءُ السَّبْعُ

سات نام ہیں

مِنْ أَوْسَادِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ

اوراد شیخ عبدالقادر جیلانی میں سے

الْجِيلَانِي مَعَ تَوَجُّهَاتٍ

ساتھ رجوع دل کے ہے

بِسْمِ كَلِيدِ دَرَجِ حَكِيمِ

کنجی دروازے خزانے خدا کی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سیدنا مولانا حجتہ الحق الی الخلق شیخ عبدالقادر اجمیلی قدس سرہ ان اسماء کا ورد کرتے تھے اور آپ نے ہر اسم کے لئے ایک توجہ بنائی ہے جو کہ ہر سومر تہہ یا پانچ سومر تہہ اسم پڑھنے کے بعد پڑھی جائے گی۔ ان کے برکات ظاہر ہیں۔

الْأَسْمُ الْأَوَّلُ (پہلا نام)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اس کو ایک لاکھ مرتبہ پڑھے۔ اس کی توجہ یعنی مطلب اصطلاحِ تصوف میں یہ ہوتا ہے کہ اے خدا میرے ظاہر پر اس کلمہ کی بادشاہی قائم کر اور باطن میں اس کے حقائق ثابت کر اور مجھ میں اس کے احاطہ سے میرے ظاہر کا استغراق ہو، تاکہ مراتب وجود و شہود میں تیرے افعال و صفات کے سوا کسی کو نہ دیکھوں۔

الْإِسْمُ الثَّانِي (دُوسرا نام) اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس کو ایک لاکھ مرتبہ پڑھے اس کی توجہ یعنی مطلب اصطلاحِ تصوف میں یہ ہے کہ اے خدا مجھ کو اپنی طرف راستہ دکھا اور مجھ کو اپنے آگے ادب والا و ثابت قدم بنا اور اپنی محبت دے میرے دل کو اپنی ذات کے لئے منظر اور اپنے احکام کے لئے سرچشمہ بنا۔ اگر حرفِ ندا یعنی یا کے ساتھ پڑھے تو یا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ کہے۔

الْإِسْمُ الثَّالِثُ (تیسرا نام) حَمِي حَمِي حَمِي

ایک لاکھ مرتبہ پڑھے۔ اس کی توجہ یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھ کو پاک زندگی دے اپنی محبت کا پاکیزہ و شیریں شربت پلا۔ میری زندگی تجھ میں وابستہ ہے۔ اپنی حیات کا نور میری حیات میں ظاہر کر، میری رُوح کو دائمی حیات نصیب کر اور قیامت کے دن میرے باطن کو اپنے باطن سے نفع پہنچا۔ میرے دل کو اپنی پرورش کے بھیدوں سے آگاہ کر۔ میری زبان کو باطنی علوم پر گویا کر۔ اگر یسا کے ساتھ پڑھے تو بلا تئوین **يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ** کہے۔

الْإِسْمُ الرَّابِعُ (چوتھا نام)

وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ

اس کو ایک لاکھ مرتبہ پڑھے۔ اس کی توجہ یعنی مطلب اصطلاح تصوف میں یہ ہے کہ :

اپنے نور و جدانیت کے ذریعے مجھ کو موحّد بنا اور اپنے پر کاملے یقین کرنے کی مجھ کو توفیق دے کہ تو اپنی خدائی میں اکیلا ہے اور میرے تمام دینی و دنیاوی کاموں کے لئے بس تو ہی کافی ہے۔ اگر یسا کے ساتھ پڑھے تو یوں کہے :

يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ يَا وَاحِدٌ

الْإِسْمُ الْخَامِسُ (پانچواں نام) عَزِيزٌ عَزِيزٌ عَزِيزٌ

اس کو ایک لاکھ مرتبہ پڑھے۔

اس کی توجہ یعنی مطلب اصطلاح تصوف میں یہ ہے کہ :
مجھ کو اپنی عزت کے واسطہ سے عزت والوں سے داخل کر،
عزت والوں کے کام مجھ سے کرا۔ مجھ کو عزت دے اور عزت
والے بندوں سے داخل کر۔

اگر یا کے ساتھ پڑھے تو پھر بلا تنوین پڑھے :

يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ

الْإِسْمُ السَّادِسُ (بچھٹا نام) وَهَّابٌ وَهَّابٌ وَهَّابٌ

اس کو ایک لاکھ مرتبہ پڑھے۔

اس کی توجہ یعنی مطلب اصطلاح تصوف میں یہ ہے کہ :
 مجھ کو ایسی توفیق بخش جو تیری مرضی کے کاموں تک مجھ کو پہنچا دے
 اے بھید کی باتوں کے بتانے اور بخشنے والے مجھ پر مہربانی کر۔
 اے خدا تو مجھ پر اپنی بخشش کی حقیقت جاری کر۔ اے خدا تو مجھ پر اس
 امر کا نگرانی بنا رہ کہ صرف میرا ہی محتاج بنا رہوں کیونکہ تیری غنا و دولت
 درحقیقت کامل ہے۔ پس تو مجھ فقیر بندہ پر ایسا احسان کر کہ خود غنی سے ہو کر
 دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں، کیونکہ تو غنی ہے اور دینے والا ہے۔ اگر
 یا کے ساتھ پڑھے تو پھر یوں پڑھے :

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ

الْإِسْمُ السَّابِعُ (ساتواں نام)

وَدُودٌ وُدُودٌ وُدُودٌ وُدُودٌ

اس کو ایک لاکھ مرتبہ پڑھے۔
 اس کی توجہ یعنی مطلب اصطلاح تصوف میں یہ ہے کہ :
 مجھ کو نیک لوگوں کی محبت عطا کر۔ اے خدا مجھ کو مخلوق کے شر سے
 بچا کیونکہ اللہ کے شر کے بند کرنے کی تجھ میں کامل طاقت ہے۔ اگر
 یا کے ساتھ پڑھے تو پھر بلا تنوین پڑھے :
 يَا وُدُودٌ يَا وُدُودٌ يَا وُدُودٌ

درود اکبر

درود اکبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

الصلوة والسلام عليك يا رسول

درود اور سلام اوپر تیرے اے رسول

اللهم الصلوة والسلام عليك

اللہ کے درود اور سلام اوپر تیرے

يا نبي الله صلوة والسلام

اے نبی اللہ کے درود اور سلام

عليك يا حبيب الله صلوة

اوپر تیرے اے حبیب اللہ کے درود

والسلام عليك يا خليل الله

اور سلام اوپر تیرے اے خلیل اللہ کے

الصلوة والسلام عليك يا صفي

درود اور سلام اوپر تیرے اے برگزیدہ

اللَّهُ ط وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ کے درود اور سلام اوپر تیرے

يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ ط وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اے سب سے بہتر مخلوق اللہ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا مَكِّيَّ ط اللَّهُ وَالصَّلَاةُ

اوپر تیرے اے مکی اللہ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قُرَيْشِيَّ ط

اور سلام اوپر تیرے اے قریشی اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَدَنِيَّ

درود اور سلام اوپر تیرے اے مدنی

اللَّهُ ط وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ کے درود اور سلام اوپر تیرے

يَا مَنْ اخْتَارَكَ اللَّهُ ط وَالصَّلَاةُ

اے وہ شخص کہ پسند کیا اس کو اللہ نے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ عَظَّمَهُ اللَّهُ ط

اور سلام اوپر تیرے اے وہ شخص کہ عظمت دی اس کو اللہ نے

درد اور سلام اوپر تیرے اے خلیفہ

درد اور سلام اوپر تیرے اے خلیفہ

اللَّهُ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ کے درد اور سلام اوپر تیرے

يَا حَضْرَةَ اللَّهِ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اے حاضر ہونے والے درگاہ اللہ کے درد اور سلام

عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ ط الصَّلَاةُ

اوپر تیرے اے برگزیدہ اللہ کے درد

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ ط

اور سلام اوپر تیرے اے برہان اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ

درد اور سلام اوپر تیرے اے رحمت

اللَّهُ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ کے درد اور سلام اوپر تیرے

يَا نُورَ اللَّهِ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اے نور اللہ کے درد اور سلام

دُرُودِ اَكْبَرِ ۲۰۱
عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ ط

اوپر تیرے اے محمد رسول اللہ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

دُرُودِ اور سلام اوپر تیرے اے

صَاحِبِ النَّجَّاحِ وَالْمُعْرَاجِ ط الصَّلَاةُ

صاحب تاج اور معراج کے دُرُودِ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبِ

اور سلام اوپر تیرے اے صاحب

الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ ط الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

حوض اور کوثر کے دُرُودِ اور سلام

عَلَيْكَ يَا صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ ط

اوپر تیرے اے صاحب شفاعت کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

دُرُودِ اور سلام اوپر تیرے

يَا صَاحِبِ النِّعْمَةِ ط الصَّلَاةُ

اے صاحب نعمت کے دُرُودِ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ

اور سلام اوپر تیرے اے ختم کرنے والے

النَّبِيِّ وَالرِّسَالَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

نبوت اور پیغمبری کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْمَدِينِ وَالصَّلَاةِ

اوپر تیرے اے نبی مدینہ والے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحَرَمِ

اور سلام اوپر تیرے اے نبی حرم والے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

درود اور سلام اوپر تیرے

يَا نَبِيَّ الْعَرَبِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

اے نبی عرب کے رہنے والے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْحِجَازِ وَالصَّلَاةِ

اوپر تیرے اے نبی حجاز والے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ

اور سلام اوپر تیرے اے نبی

دُرُودِ ۲۰۳ اَکْبَرِ
التَّيَّهَامِي الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

تہامہ والے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْهَاشِمِيِّ الصَّلَاةُ

اوپر تیرے اے نبی ہاشمی درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْقُرَيْشِيِّ

اور سلام اوپر تیرے اے نبی قریشی

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ

درود اور سلام اوپر تیرے اے نبی

الرَّكِي الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

یاک درود اور سلام اوپر تیرے

يَا نَبِيَّ الْأُمِّيَّ

اے نبی امی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا اے الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سرور ہیں

الرُّسُلَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رسولوں کے یا الہی دُرُود بھیج اُوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں نبیوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ

دُرُود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں مومنوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُتَّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

پسینہ گاروں کے یا الہی دُرُود بھیج اُوپر محمد کے

سَيِّدِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

جو سردار ہیں نیکو کاروں کے یا الہی دُرُود بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْلِمِينَ

اُوپر محمد کے جو سردار ہیں مسلمانوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں

دُرُودِ اَكْبَرِ ۲۵

الصَّادِقِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

پيغمبروں کے یا اہلی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصَدِّقِينَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں تصدیق کرنے والوں کے یا اہلی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّابِرِينَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں صبر کرنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا اہلی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الشَّاهِدِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

گواہوں کے یا اہلی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَشْهُودِينَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں حاضر کئے ہوؤں کے یا اہلی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَابِطِينَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں جوڑنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا اہلی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

نجات دلانے والوں کے یا الہی دُرُود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں خلاصی والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں قبول کرنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الزَّاهِدِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

پرہیزگاروں کے یا الہی دُرُود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَشَرِ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں توبہ کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَائِفِينَ

دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں ڈرانے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

دُرُودِ اَكْبَرِ ۲۰۷
الْعَاطِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

زہی کرنے والوں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَاقِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں (خوف خدا سے) رونے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِينَ

دُرُودِ بَیْحِ اُوپر محمد کے جو سردار ہیں قیام کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوپر محمد کے جو سردار ہیں

الرَّاكِعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

رکوع کرنے والوں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّاجِدِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں سجدہ کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصَلِّينَ

دُرُودِ بَیْحِ اُوپر محمد کے جو سردار ہیں نمازوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوپر محمد کے جو سردار ہیں

التَّقَارِيِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تاریوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاعِدِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں بیٹھنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَزْهَدِينَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں زاہدوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُؤَقِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

یقین دلائے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَاجِيْنَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں ہمرازوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاتِعِينَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں قناعت کر لے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

دُرُود ۲۰۹ اکبر
اَلْحَفِیْطِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

حافظوں کے یا الہی دُرُود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجَاہِلِیْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں بھوکوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِدِیْنَ

دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں حمد کرنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

اَلْمُرْشِدِیْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

مُرشدوں کے یا الہی دُرُود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّظَرِیْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں دیکھنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبْرِكِیْنَ

دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں برکت والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

موتخوں کے یا الہی دُرُود بھج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِلِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں بولنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَنْصُوْرِيْنَ

دُرُود بھج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مدد دینے کیوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

التَّصِيْرِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

مدد کرنے والوں کے یا الہی دُرُود بھج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الضُّفَيْرِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں فتح مندوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَارِثِيْنَ

دُرُود بھج اوپر محمد کے جو سردار ہیں وارثوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

دُرُودِ اَكْبَرِ ۲۱۱

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

فتح دیتے گیوں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرْزُوقِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں رزق دیتے گیوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّغِيْبِيْنَ

دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر مُحَمَّد کے جو سردار ہیں رغبت والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر مُحَمَّد کے جو سردار ہیں

اَلْمَشْفِقِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

شفقت کرنے والوں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّاجِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں روزہ رکھنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّوَابِيْنِ

دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر مُحَمَّد کے جو سردار ہیں توبہ کرنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر مُحَمَّد کے جو سردار ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

اَلْفَتْ كَرْتِے وَاوَلُوں كِے يَا اِهْلٰى دُرُود بھِج اُوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْبِيِّينَ اَللّٰهُمَّ

مُحْمَد كِے جو سَرْدَار ہِیں رَجُوْع كَرْنِے وَاوَلُوں كِے يَا اِهْلٰى

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَبْدِيْنَ

دُرُود بھِج اُوپر مُحْمَد كِے جو سَرْدَار ہِیں عَابِدُوں كِے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

يَا اِهْلٰى دُرُود بھِج اُوپر مُحْمَد كِے جو سَرْدَار ہِیں

الْمَسْكِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

مَسْكِيْنُوں كِے يَا اِهْلٰى دُرُود بھِج اُوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَافِقِيْنَ اَللّٰهُمَّ

مُحْمَد كِے جو سَرْدَار ہِیں مُوَافِقُوں كِے يَا اِهْلٰى

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَافِقِيْنَ

دُرُود بھِج اُوپر مُحْمَد كِے جو سَرْدَار ہِیں نَزْمِ كَرْنِے وَاوَلُوں كِے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

يَا اِهْلٰى دُرُود بھِج اُوپر مُحْمَد كِے جو سَرْدَار ہِیں

۲۱۳
دُرُودِ صَبِيحِ اَوْبِرِ
اَلْفَا زَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

مُرَاد کو پڑھنے والوں کے یا الہی دُرُودِ صَبِيحِ اَوْبِرِ

مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْعَبْدِ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں عمل کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ

دُرُودِ صَبِيحِ اَوْبِرِ محمد کے جو سردار ہیں پناہ لینے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ صَبِيحِ اَوْبِرِ محمد کے جو سردار ہیں

اَلنَّاجِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

نجات پانے والوں کے یا الہی دُرُودِ صَبِيحِ اَوْبِرِ

مُحَمَّدِ سَيِّدِ الظَّهْرِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں یا کون کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّهْرِيْنَ

دُرُودِ صَبِيحِ اَوْبِرِ محمد کے جو سردار ہیں غالب ہونے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ صَبِيحِ اَوْبِرِ محمد کے جو سردار ہیں

التَّابِعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تا بعداروں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاضِلِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں فضیلت والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاكِرِينَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں شکر کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

پاکیزگی پسند کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطِيعِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں فرمانبرداروں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَرْحُومِينَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں رحم کئے ہوؤں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

دُرُودِ اَكْبَرِ ۲۱۵
اَلدَّعُوْرَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

مغفوروں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَضِيْلِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں فضیلت والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الطَّالِبِيْنَ

دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر محمد کے جو سردار ہیں طالبوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر محمد کے جو سردار ہیں

اَلْمَطْلُوْبِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

مطلوبوں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطَهَّرِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں پاک کئے گیوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصَّوْمِيْنَ

دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر محمد کے جو سردار ہیں روزہ داروں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر محمد کے جو سردار ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

قیام کرنے والوں کے یا الہی دُرُود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوْلِيَاءِ اِنَّكَ اَبْرَارٌ

محمد کے جو سردار ہیں رجوع کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوٰصِلِيْنَ

دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں جوڑنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

السُّجَّيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

محبت کرنے والوں کے یا الہی دُرُود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَحْبُوْبِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں دوستوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُوْرُوْدِيْنَ

دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں وارد ہونے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

دُرُودِ اَكْبَرِ ۲۱۴

اَلْمَقْبُولِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

مقبولوں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَشْتَاقِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں مشتاقوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاشِقِيْنَ

دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر مُحَمَّد کے جو سردار ہیں عاشقوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر مُحَمَّد کے جو سردار ہیں

اَلْمَعْشُوْقِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

معتشوقوں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَارِفِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں عارفوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَاعِظِيْنَ

دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر مُحَمَّد کے جو سردار ہیں واعظوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر مُحَمَّد کے جو سردار ہیں

الْمَذْكُورِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ذکر کئے گیوں کے یا الہی دُرُود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْعَمِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں تو نیکوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَظِيمِينَ

دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عظمت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُبْتَغِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مبتغوں کے یا الہی دُرُود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَادِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں منادی کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُودِيَّةِ

دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں ادب کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

تفسیر کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعْلَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں سکھانے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَقَلِيْنَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عقل مندوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْبَيٰذِلِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

خرچ کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَبْجُوْدِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں سنجھوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَبِدِيْنَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں عبادت کرنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

سننے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَرَّبِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں مقربوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحَرِّضِيْنَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں رعبت دلانے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

اَلْمُفَرِّجِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

خوش کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَرَّبِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں نزدیکی والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَقَابِلِيْنَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں روبرو بیٹھنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

السَّبِيحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تسبیح پڑھنے والوں کے یا الہی درود بیچ اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَقْدِسِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں پاک لوگوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَلِينَ

درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں آہستہ قرآن پڑھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْبَنَاءِ مُؤَلِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

امید دلاتے گیوں کے یا الہی درود بیچ اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحَقِّقِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں تحقیق کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُدَقِّقِينَ

درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں باریک بینیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

جلائے والوں کے یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اُوپَر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الصّٰٓئِبِيْنَ اللّٰهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں روزہ داروں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْسِنِيْنَ

دُرُودِ صَبْحِ اُوپَر محمدؐ کے جو سردار ہیں نیکوں کے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اُوپَر محمدؐ کے جو سردار ہیں

الزّٰكِيْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

پاکوں کے یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اُوپَر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكٰمِلِيْنَ اللّٰهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں کاملوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السّٰٓبِقِيْنَ

دُرُودِ صَبْحِ اُوپَر محمدؐ کے جو سردار ہیں پہلوں کے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اُوپَر محمدؐ کے جو سردار ہیں

دُرُود ۲۲۳ اکبر
الْمَسْبُوقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

پتھلوں کے یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اُوپَر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعْصُومِينَ اللَّهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں بے گناہوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْفُوظِينَ

دُرُودِ صَبْحِ اُوپَر محمدؐ کے جو سردار ہیں حفاظت کئے گیوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اُوپَر محمدؐ کے جو سردار ہیں

الْمُشْفَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

شفاعت کرنے والوں کے یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اُوپَر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْفَعِينَ اللَّهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں شفاعت کئے گیوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَطِّبِينَ

دُرُودِ صَبْحِ اُوپَر محمدؐ کے جو سردار ہیں عظمت والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اُوپَر محمدؐ کے جو سردار ہیں

اَلْمُوَفِّينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

اُلفت کرنے والوں کے یا الہی دُرُود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَظْهَرِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں غالبوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّصِدِقِيْنَ

دُرُود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں تصدیق کرنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں

اَلْمُوَفِّينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

توفیق دینے ہوؤں کے یا الہی دُرُود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَافِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں معاف کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَبْتُوَلِيْنَ

دُرُود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں عالموں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں

الْمَحْزُورِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

غناکوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَسْرُورِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں خوشی کئے ہوؤں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْزَلِينَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں اُمتارنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُنْتَبِذِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

منتازوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَمِينِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں امن والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَاضِعِينَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں تواضع کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُتَّفَكِّرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سوچنے والوں کے یا الہی دُرُودِ بَیِّنِجِ اُوْبَیْر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَجَّلِينَ اللَّهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں عزت کئے گیوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَجْدِيِّينَ

دُرُودِ بَیِّنِجِ اُوْبَیْرِ مُحَمَّدِ كَيْ جُو سَرْدَارِ هَيْسِ عَالِي شَانِ وَالْوَلَّوْنَ كَيْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیِّنِجِ اُوْبَیْرِ مُحَمَّدِ كَيْ جُو سَرْدَارِ هَيْسِ

الْمُتَّفَاخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

فخر کرنے والوں کے یا الہی دُرُودِ بَیِّنِجِ اُوْبَیْرِ

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَحَمِّلِينَ اللَّهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں تحمل کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَسِّئِينَ

دُرُودِ بَیِّنِجِ اُوْبَیْرِ مُحَمَّدِ كَيْ جُو سَرْدَارِ هَيْسِ دَاعِ لُكَلَّئِ وَالْوَلَّوْنَ كَيْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیِّنِجِ اُوْبَیْرِ مُحَمَّدِ كَيْ جُو سَرْدَارِ هَيْسِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

تقسیم کرنے والوں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقِيمِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں مقیموں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسَافِرِيْنَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں مسافروں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُهَاجِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

مہاجروں کے یا الہی درود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُظْهَرِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں غلبہ پانے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْغَافِرِيْنَ

درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں بخشنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بھیج اوپر محمد کے جو سردار ہیں

اَلْمُبْرَهِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

حجت کرنے والوں کے یا الہی دُرُود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّابِقِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں تسبیح پڑھنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ

دُرُود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں جہانوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں

الْقَانِتِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

فرمانبرداروں کے یا الہی دُرُود بھیج اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْفِقِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں خرچ کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاضِيْنَ

دُرُود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں راضی ہونے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اوپر محمدؐ کے جو سردار ہیں

الرَّزُوقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مہربانی کرنے والوں کے یا الہی دُرُود بھیج اُوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَمَجِّدِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں تمجد پڑھنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَغْفِرِينَ

دُرُود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں بخشش مانگنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْمُسْتَغْفِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سوال سے بچنے والوں کے یا الہی دُرُود بھیج اُوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَامِلِينَ اللَّهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں بوجھ اٹھانے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شَفِيعِ الْمَذْنُبِينَ

دُرُود بھیج اُوپر محمد کے جو سفارش کرنے والے ہیں گنہگاروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُود بھیج اُوپر محمد کے جو سردار ہیں

۲۳
دُرُودِ اَوْبِرِ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

دین داروں کے یا الہی - دُرُودِ بَیْحِ اَوْبِرِ

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْضِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں راضی کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَادِحِيْنَ

دُرُودِ بَیْحِ اَوْبِرِ محمدؐ کے جو سردار ہیں صفت کرنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اَوْبِرِ محمدؐ کے جو سردار ہیں

الْاَرْفَعِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

بلند مرتبہ والوں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اَوْبِرِ

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَشِّرِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں خوشخبری دینے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْذِرِيْنَ

دُرُودِ بَیْحِ اَوْبِرِ محمدؐ کے جو سردار ہیں ڈرانے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اَوْبِرِ محمدؐ کے جو سردار ہیں

دُرُودِ اَوَّلِ الْاَكْبَرِ ۲۳۱

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

تذییر کرنے والوں کے یا الہی . دُرُودِ صَبْحِ اَوَّلِ

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْتَشِقِينَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں پرورش کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُخْلِصِينَ

دُرُودِ صَبْحِ اَوَّلِ مُحَمَّدٍ کے جو سردار ہیں مخلصوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اَوَّلِ مُحَمَّدٍ کے جو سردار ہیں

الَّذِي كَرَّمْتَهُ

ذکر کرنے والوں کے یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اَوَّلِ

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَاضِعِينَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں عاجزی کرنے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَاشِعِينَ

دُرُودِ صَبْحِ اَوَّلِ مُحَمَّدٍ کے جو سردار ہیں خستوع کرنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اَوَّلِ مُحَمَّدٍ کے جو سردار ہیں

الرَّاجِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

امیدواروں کے یا الہی درود بیچ اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَوْمِلِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں متامل کرے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوْرَعِيْنَ

دُرُود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں پرہیزگاروں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الْخَالِصِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

خالصوں کے یا الہی درود بیچ اوپر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَتَوَرِّعِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں پرہیزگاروں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَظْهَرِيْنَ

دُرُود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں پاکوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی درود بیچ اوپر محمد کے جو سردار ہیں

دُرُودِ اَكْبَرِ ۳۳۳

اَلَا تُكْرِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

عزت والوں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَكْرَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں شریفوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَتْجَبِيْنَ

دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر مُحَمَّد کے جو سردار ہیں نجات پہلنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر مُحَمَّد کے جو سردار ہیں

اَلَا تُشْجَعِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

بہادروں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَفْضَلِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے ابو سردار ہیں فضیلت والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَنْوَرِيْنَ

دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر مُحَمَّد کے جو سردار ہیں نور والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر مُحَمَّد کے جو سردار ہیں

الْمَعْرُوفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نیکو کاروں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّالِكِينَ اللَّهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں سالکوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعَاهِدِينَ

دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر محمدؐ کے جو سردار ہیں عہد کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر محمدؐ کے جو سردار ہیں

الْهُدَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ہدایت والوں کے یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُهْدِيَيْنِ اللَّهُمَّ

محمدؐ کے جو سردار ہیں راہ پانے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْتَسِمِينَ

دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر محمدؐ کے جو سردار ہیں روشنی بکڑنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

یا الہی دُرُودِ بَیْحِ اُوْبَیْر محمدؐ کے جو سردار ہیں

دُرُودِ اَكْبَرِ ۳۳۵
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

مرتبہ پانے والوں کے یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اُوْبَیْر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاقِقِيْنَ اَللّٰهُمَّ

محمد کے جو سردار ہیں فوقیت پانے والوں کے یا الہی

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَاتِحِيْنَ

دُرُودِ صَبْحِ اُوْبَیْر محمد کے جو سردار ہیں کھولنے والوں کے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّعَ

یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اُوْبَیْر محمد کے ساتھ

اَلْاَرْضِ اِذَا بَدَلْتُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

زمین کے جب بدلی جائے یا الہی دُرُودِ صَبْحِ

عَلٰى مُحَمَّدٍ مَّعَ الصُّدُوْرِ اِذَا

اُوْبَیْر محمد کے ساتھ سینوں کے جب

حُصِلْتُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

کھولے جاویں یا الہی دُرُودِ صَبْحِ اُوْبَیْر محمد کے

مَّعَ الْحَسَنَاتِ اِذَا اُظْهِرْتُ اَللّٰهُمَّ

ساتھ نیکیوں کے جب ظاہر کی جاویں یا الہی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ السِّيَّاتِ

دُرُودِ صَبْحِ اُوپَرِ مُحَمَّدِ كے سَاخِہ بَرَاہِیوں كے

اِذَا اَبَدَلْتُ اللّٰهَ صَلِّ عَلَى

جَبِ بَدَلِ جَاوِیَسِ یَا اِلهِی دُرُودِ صَبْحِ اُوپَرِ

مُحَمَّدٍ مَعَ السِّيَّاتِ اِذَا اَنْزَلْتُ

مُحَمَّدِ كے سَاخِہ بَرَاہِیوں كے جَبِ بَھوڑِ دِی جَاوِیَسِ

اللّٰهَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ

یَا اِلهِی دُرُودِ صَبْحِ اُوپَرِ مُحَمَّدِ كے سَاخِہ

الْحَاجَاتِ اِذَا قَضَيْتُ اللّٰهَ

حَاجَتوں كے جَبِ قَضَا كِی جَاوِیَسِ یَا اِلهِی

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعَ الْجَنَّةِ

دُرُودِ صَبْحِ اُوپَرِ مُحَمَّدِ كے سَاخِہ بَھِشْتِ كے

اِذَا اَنْزَلْتُ لِقَتِ اللّٰهَ صَلِّ عَلَى

جَبِ كَہ قَرِیْبِ كِی جَاوِیَسِ یَا اِلهِی دُرُودِ صَبْحِ اُوپَرِ

مُحَمَّدٍ مَعَ النُّفُوسِ اِذَا زُوِّجْتُ

مُحَمَّدِ كے سَاخِہ نَفْسوں كے جَبِ مِلَانِے جَاوِیَسِ

دُرُود ۲۳۷
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْإِمَامِ

یا اہلی درود بھیج اوپر محمد کے جو امانت دار ہیں

عَلَى وَحْيِكَ صَلَوةً لِّأَحَدٍ لِّهَا وَلَا

اوپر وحی تیری کے درود بے حد اور

مُدَّتْهُي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

بے انتہا یا اہلی درود بھیج اوپر محمد کے

بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَعَلَى آلِ

ساتھ عدد کے کہ معلوم ہے تجھ کو اور اوپر اولاد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

سردار ہمارے محمد کے اور برکت اور سلام بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَضْعَافَ

یا اہلی درود بھیج اوپر محمد کے کئی گنا اس چیز کا کہ

مَا صَلَّيَ عَلَيْكَ جَمِيعِ الْمُصَلِّينَ

درود بیڑھیں اوپر اس کے سب

مِنَ السَّابِقِينَ وَالْمُؤَخَّرِينَ أَضْعَافًا

درود پخوانے والے اور پیچھے والے کو

مُضَاعَفَةً أَلْفَ أَلْفِ فِي وَ

دُکھت کئی لاکھ اور

أَلْفِ أَلْفٍ وَصَلِّ كَذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ

دُرُود بھیج اسی طرح اوپر تمام

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ

نبیوں اور رسولوں کے اور اوپر فرشتوں

الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ

مقربوں کے اور اوپر جو اہل طاعت تیرے

اجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ہیں سب یا اہی دُرُود بھیج اوپر محمد کے

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ شَيْءٍ

اور اوپر آل محمد کے ساتھ کتنی ہر چیز کے

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ

جو دنیا اور آخرت کے ہے رحمتیں اللہ کی

وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَاءِهِ وَرُسُلِهِ

اور فرشتوں اس کے کی اور نبیوں اس کے کی اور رسولوں اس کے کی

وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اور تمام خلقت اس کے کی اوپر محمد کے جو سردار ہیں

الرُّسُلِينَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ

رسولوں کے اور بلیشوا پر سبیز گاروں کے اور ختم کرنے والے

النَّبِيِّينَ وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمَجَلِيْنَ

نبیوں کے اور کھینچنے والے ہیں روشن پیشانی اور ہاتھ پاؤں والوں کے

وَشَفِيْعِ الْمَذْنُبِيْنَ وَرَسُوْلِ رَبِّ

اور شفاعت کرنے والے گنہگاروں کے اور رسول پروردگار

الْعَالَمِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاٰلِ

جہانوں کے اور اوپر آل اس کی اور یار اس کے اور

ذُرِّيَّاتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَاَحْفَادِهِ

اولاد اس کی اور گھر والوں اس کے اور نواسوں اس کے

اَجْمَعِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جِبْرِيلَ

سب کے یا الہی درود بھیج اوپر جبرائیل

وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَعِزْرَآئِيْلَ

اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل

وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَ

اور منکر اور نکیر اور فرشتے مقربوں کے اور

عَلَى حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ

اوپر اٹھانے والوں عرش کے اور کرام کاتبین کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

یا الہی درود بھیج اوپر سردار ہمارے محمد کے اور اوپر

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اولاد سردار ہمارے محمد کے اور برکت اور سلام بھیج

صَلَاةً تَنْجِينُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ

ایسا درود کہ خلاصی دے ہم کو ساتھ اس کے تمام خوفوں

وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ

اور آفتوں سے اور پورا کرنے تو واسطے ہمارے ساتھ اس کے

الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ

تمام حاجتوں کے اور پاک کر ہم کو ساتھ اس کے تمام

السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى

جڑائیوں سے اور بلند کر دے ہم کو ساتھ اس کے نزدیک اپنے اعلیٰ

الدَّرَجَاتِ وَتُبِغْنَا بِهَا أَقْصَى

درجوں پر اور پہنچا دے ہم کو ساتھ اس کے منزل

الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي

مقصود پر تمام نیکیوں سے بیچ زندگی

الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کے اور بعد مرنے کے یا الہی درود بیچ

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ

اوپر محمد کے اور اوپر آل محمد کے اور برکت بیچ

وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ

اور سلامتی اور درود بیچ اوپر تمام نبیوں کے

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

اور رسولوں کے اور اوپر بندے اپنے نیکوں کے

وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اللَّهُمَّ

اور سلام بیچ سلام بہت بہت یا الہی

إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَنْ

میں مانگتا ہوں تجھ سے بظہیر اس درود کے یہ کہ

تُكْرِمَنِي بِرُؤْيَيْهِ مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ

عزت دے تو مجھے ساتھ دیدارِ محمد کے جو مہر نبیوں کے ہیں

فِي الْمَنَامِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَلِوَالِدَيَّ

بیچ خواب کے اور یہ کہ بخش دے تو مجھے اور ماں باپ میرے

وَلِأَسْتَاذِيَّ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ

اور استادوں میرے اور تمام مومن مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

اور مومن عورتوں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَتَجِدْنِي

کو جو زندہ ہیں ان سے یا مردہ اور بچا تو مجھ کو

مِنْ عَذَابِكَ وَتُوجِبَ لِي بِرِضْوَانِكَ

عذاب اپنے سے اور واجب کر میرے واسطے رضامندی اپنی

وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ كَثِيرًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ

اور سلام بیچ سلام بہت بہت ساتھ رحمت اپنی کے

يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ ۝

اے بڑے رحم کرنے والوں کے

دُرُود لکھی

دُرُود لکھی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اہلی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

آپ کی آل پر بشمار اپنی رحمت کے درود و

رَحْمَةِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

سلام نازل فرما اہلی ہمارے آقا و مولیٰ محمد

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ فَضْلِ اللّٰهِ

بشمار اپنے فضل کے رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اہلی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آپ کی آل پر بے شمار اپنی مخلوقات

بَعْدَ خَلْقِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کے رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما الہی ہمارے آقا و مولیٰ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ عِلْمِ اللَّهِ

آل پر بے شمار اپنی معلومات کے رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَ

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

وسلم پر اور آپ کی آل پر بے شمار اپنے کلمات

مُحَمَّدٍ بَعْدَ كَلِمَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ

کے رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما الہی

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ ذِكْرِهِ

آل پر یعنی بزرگی کے برابر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

فرما الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر کلام اللہ

مُحَمَّدٍ بَعْدَ حُرُوفِ كَلِمِ اللَّهِ

کے حروفوں کے برابر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَ

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بارشوں کے

بَعْدَ قَطْرَاتِ الْأَمْطَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

قطروں کے برابر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما الہی ہمارے

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَوْرَاقِ

اور آپ کی آل پر درختوں کے پتوں کے برابر رحمت کاملہ اور

الْأَشْجَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صحراؤں کی ریت (کے ذروں) کے برابر

بَعْدَ دَرَمَلِ الْقِفَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ

عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بسمت ہر اس

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَا خُلِقَ فِي الْبَحَارِ ۝

چیز کے جو سمندروں میں پیدا کی گئی رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اور آپ کی آل پر دانوں اور پھلوں کی تعداد میں رحمت کاملہ

۲۲۶
درد و غم
الْحَبِيبِ وَالْثَّمَارِطُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بشارت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

راتوں اور دنوں کے رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اور آپ کی آل پر بشارت ان چیزوں کے کہ جن پر رات نے

مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ

اندھیرا اور دن نے روشنی کی رحمت کاملہ اور سلامتی نازل

النَّهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

فرما۔ الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر بشارت ان (نفوس) کے جنہوں

مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهُ

حضور اقدس پر درود بھیجا رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

ہمارے آقا و مولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ

اور آپ کی آل پر بشمار ان (نفوس) کے رحمت کاملہ اور سلامتی

مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى

نازل فرما جنہوں نے حضور پر درود نہیں بھیجا الہی ہمارے

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ

آقا و مولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَنْفَاسِ

آل پر اس قدر رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما جس قدر کہ

الْخَلَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

مخلوق نے سانس لی۔ الہی ہمارے آقا و مولی محمد

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر آسمان کے ستاروں کے برابر

بَعْدَ نَجْوَمِ السَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ الہی ہمارے

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ

آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ شَيْءٍ

کی آل پر و نسا اور آفت کی ہر چیز کے برابر

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى

رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما۔ خدائے برتر کی رحمتیں اور

وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَآئِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ

اس کے فرشتوں اور نبیوں اور رسولوں اور تمام

الْخَلَائِقِ بِعَدَدِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ

مخلوقات کا درود رسولوں کے سردار پر ہرگز گاروں

الْمُتَّقِينَ وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحْجَلِينَ وَشَفِيعِ

کے پیشوا درخشاں پیشانی والوں کے راہنما اور گنہگاروں

الْمُذْنِبِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کی شفاعت کرنے والے (یعنی) ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَنْزِلُ وَاجْهَ وَذُرِّيَّتِهِ وَ

علیہ وسلم پر اور آپ کی آل آپ کے اصحاب، ازواج، مطہرات،

أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

اولاد اور اہل بیت پر اور تیرے تمام اطاعت شعاروں پر جو

مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ بِرَحْمَتِكَ

جو آسمانوں اور زمینوں پر رہتے ہیں اے رحم کرنے والوں میں سے

يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا كَرَمَ الْكَرَمِينَ ط

زیادہ رحم کرنے والے اور اے کرم کرنے والوں میں سے زیادہ کرم کرنے والے اپنی رحمت سے

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

(میری یہ التجا قبول فرما) حق تعالیٰ ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلِّمْ وَسَلِيمًا

آپ کی آل پر اور تمام صحابہ پر ہمیشہ ہمیشہ رحمت و

دَائِمًا أَبَدًا كَثِيرًا كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سلامتی نازل فرمائے اور ہر قسم کی حمد و ثناء حق تعالیٰ ہی کیلئے ہے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

جو تمام جہانوں کا رب ہے والا ہے

درود تاج

درود تاج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَوَالِدِنَا

الہی ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ

رحمت نازل فرما جو صاحب تاج و معراج

وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ دَافِعِ الْبَلَاءِ

اور براق والے اور جھنڈے والے ہیں جن کے

وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْأَلَمِ

ویسے سے بلا و بلاء قحط مرض اور دکھ دور ہوتا ہے

إِسْمِهِ مَكْتُوبٌ فِي مَرْفُوعٍ مَّشْفُوعٍ

آپ کا نام نامی لکھا گیا بلند کیا گیا قبول شفاعت

مَنْقُوشٌ فِي اللُّوحِ وَالْقَلَمِ سَيِّدِ

کیا گیا اور لوح و قلم میں کھدا ہوا ہے آپ

الْعَرَبِ وَالْعَجْمِ جِسْمُهُ مُقَدَّسٌ

عرب و عجم کے سردار ہیں آپ کا جسم نہایت مقدس

مُعَطَّرٌ مَطَهَّرٌ مَنُورٌ فِي الْبَيْتِ

نوشیور اور پاکیزہ اور خانہ کعبہ و حرم پاک

وَالْحَرَمِ شَمْسِ الصُّحَىٰ بِدُرِّ الدُّجَىٰ

میں منور ہے آپ چاشت گاہ کے آفتاب اندھیری رات کے ماہتاب

صَدْرِ الْعُلَىٰ نُورِ الْهُدَىٰ كَهْفِ الْوَرَىٰ

بلندوں کے صدر نشین راہ ہدایت کے نور مخلوقات کی جائے پناہ

مِصْبَاحِ الظُّلَمِ جَمِيلِ الشِّيمِ شَفِيعِ

اندھیروں کے چراغ نیک اطوار کے مالک امتوں کے

الْأُمَمِ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَاللَّهِ

بخشوانے والے بخشش و کرم سے موصوف ہیں اللہ آپ

عَاصِمُهُ وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ وَالْبَرَّاقُ

کا نگہبان جبریل آپ کے خدمت گزار برّاق

مَرْكَبُهُ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ وَسِدْرَةُ

آپ کی سواری معراج آپ کا سفر، سدرۃ

الْبُنْتَهَى مَقَامَهُ وَقَابَ قَوْسَيْنِ

المنتهی آپ کا مقام اور (قرب خداوندی میں) قاب قوسین کا

مَطْلُوبُهُ وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ وَالْمَقْصُودُ

مرتبہ آپ کا مطلوب ہے اور مطلوب ہی آپ کا مقصود ہے اور مقصود

مَوْجُودُهُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ

آپ کو حاصل ہے آپ رسولوں کے سردار نبیوں میں سب سے سچھے آنے والے

شَفِيعِ الْمَذْنُبِينَ اَنْبِيسِ الْغَرِيبِينَ

گنہگاروں کے بخشوانے والے مسافروں کے عم خوار

رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ رَاحَةِ الْعَاشِقِينَ

دنیا جہان کے لئے رحمت عاشقوں کی راحت

مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ شَمْسِ الْعَارِفِينَ

مشتاقوں کی مراد خدا شناسوں کے آفتاب

سِرَاجِ السَّالِكِينَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِينَ حُبِّ

راہ خدا پر چلنے والوں کے چراغ مقربوں کے راہ نما محتاجوں

الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ وَالْمَسْكِينِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ

غریبوں اور مسکینوں سے محبت رکھنے والے جن وانس کے سردار

نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسَيِّدَتِنَا فِي

حرمین کے نبی دونوں قبلوں (بیت المقدس و کعبہ) کے پیشوا اور

الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ

دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ ہیں وہ جو مرتبہ قاب قوسین

وَجُودِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ

پر فائز ہیں دو مشرقوں اور دو مغربوں کے رب

جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى

کے محبوب ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے جد امجد

الثَّقَلَيْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

اور ہمارے اور تمام جن و انس کے آقا ہیں یعنی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ

نُورٍ مِّنْ نُورِ اللَّهِ يَأْتِيهَا الْمَشْتَاوُونَ بِنُورٍ

جو اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں اسے نور جمال محمدی کے مشتاقو!

جَمَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ

آپ پر اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر درود و سلام بھیجو

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

جو بھیجنے کا حق ہے

درود کبریتِ احمد

درود کبریت احمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدًا

اے اللہ نازل کیجئے اپنی رحمتوں میں سے بہترین رحمت باعتبار شمار

وَأَنْعَمِي بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَأَزْكِ تَعْيَاتِكَ

کے اور اپنی سب سے زیادہ تر برکتوں کو باعتبار دوام کے اور اپنے سلاموں میں سے پاکیزہ تر کو

فَضْلًا وَمَدَدًا عَلٰی اَشْرَفِ الْحَقَائِقِ

باعتبار فضل اور مدد کے اوپر بزرگ ترین حقیقتوں

الْاِنْسَانِيَّةِ وَمَعْدِنِ الدَّقَائِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ

انسانیت کے اور کان ایمان والی باریکیوں کے

وَطُورِ التَّجَلِّيَّاتِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَمَهْبِطِ

اور اوپر طور (نام پہنار کا) انسانی تجلیات کے اور

الْاَسْرَائِرِ الرَّحْمٰنِيَّةِ وَوَاسِطَةِ عَقْدِ

جائے نزول خداوندی بھیدوں کے اور بیوند دینے والے گره

التَّيِّبِينَ وَمُقَدَّمَةَ جَيْشِ الْمُرْسَلِينَ

پیغمبروں کے اور ہراول لشکر پیغمبروں کے

وَأَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ حَامِلِ لَوَائِ

اور اویسر بہترین جملہ مخلوقات اٹھانے والے جھنڈے

الْعِزِّ الْأَعْلَى وَمَلِكِ أَمْرَامَةِ الشَّرَفِ

بزرگی بڑی کے اور مالک مہاروں بزرگی

الْأَسْنَى شَاهِدِ اسْرَارِ الْأَزَلِ وَمُشَاهِدِ

روشن تر کے واقف بھیدوں ازل کے اور دیکھنے والے

الْأَنْوَارِ السَّابِقِ الْأُولِ وَتَرْجَمَانِ لِسَانِ

انوار کے جو سابق اور پہلے ہیں اور بیان کرنے والے زبان

الْقَدَمِ وَمَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمِ

ہمیشگی کے اور چشمہ علم اور بردباری اور حکمتوں کے

وَمَظْهَرِ سِرِّ الْجُودِ الْجُزْئِيِّ وَالْكَلْبِيِّ

اور جائے ظہور بھید بخشش جزئی اور کلی کے

وَالنَّسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ الْعُلُويِّ وَالسُّفْلِيِّ

اور پستی آنکھ ہستی علوی اور سفلی کے

وَرُوحٍ جَسَدِ الْكُونَيْنِ وَعَيْنِ حَيَاتٍ

اور جان جسم دونوں جہان کے اور اصل زندگی

الدَّارَيْنِ الْمُتَخَلِّقِ بِأَعْلَىٰ رُتْبَةِ الْعِبُودِيَّةِ

دُنیا اور آخرت کے غویگر ساتھ برترین رتبہ بندگی

الْمُتَحَقِّقِ بِأَسْرَارِ الرَّبُوبِيَّةِ صَاحِبِ

کے نہایت آراستہ ساتھ بھیدوں ربوبیت کے صاحب

الْمَقَامَاتِ الْإِصْطِفَائِيَّةِ وَالْكَرَامَاتِ

مقامات برگزیدگی کے اور کرامات

الْأَمْرِ تَضَائِيَّةِ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَجَامِعِ

پسندیدگی کے سردار بزرگوں کے اور جامع

الْأَوْصَافِ الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ

اوصاف حمیدہ کے جو صاحب عظمت دوست ہیں اور محبوب ہیں

الْأَكْرَمِ الْمَخْصُوصِ بِأَعْلَىٰ الْمَرَاتِبِ

بڑے کریم خاص کئے کئے ساتھ بلند مرتبوں کے

وَالْمَقَامَاتِ وَالْمُؤَيَّدِ بِأَوْضِحِ الْبِرَاهِينِ

اور مقاموں کے اور مدد کئے کئے ساتھ روشن تہین دلیلوں کے

وَالذَّلَالَاتِ الْمَنصُورِ بِالرُّعْبِ وَالْمُعْجَزَاتِ

اور رہنمائیوں کے مدد گئے گئے ساتھ رعب کے اور معجزات کے

وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ الْاَبَدِيِّ وَالنُّورِ

اور جوہر بزرگ دائمی اور نور

الْقَدِيمِ الْمُحَمَّدِيِّ السَّرْمَدِيِّ سَيِّدِنَا

قدیم محمدی سردی کے سردار ہمارے

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُحَمَّدِ فِي الْاِيْجَادِ وَالْوُجُودِ

محمدؐ کے پسندیدہ بیچ پیدائش کے اور ہستی کے ابتدا

الْفَاتِحِ لِكُلِّ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَحَضْرَةٍ

کرنے والے واسطے ہر ایک دیکھنے والے اور دیکھے گئے کے اور درگاہ

الْمَشَاهِدِ وَالشُّهُودِ نُوْرٍ كُلِّ شَيْءٍ وَّ

مکانوں روشنی اور ظاہر ہونے کے نور ہر چیز کے اور

هُدَاةٍ وَبَسِيْرٍ كُلِّ سِرٍّ وَسَنَاءِ الَّذِي

راہنما اس کے اور بھید ہر بھید کے اور روشنی اس کے وہ

شَقِيقَتِ مِنْهُ الْاَسْرَارُ وَاَنْفَلَقَتْ مِنْهُ

ذات کہ کھولے گئے اس سے بھید اور روشن ہوئے اس سے

الْأَنْوَارُ السِّرِّ الْبَاطِنِ وَالنُّورِ الظَّاهِرِ

انوار باطن کے بھید کے اور نور ظاہر کے

السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْأَوَّلِ

سردار کامل ابتداء کرنے والے تمام کرنے والے اول

الْأَخِرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْعَاقِبِ الْحَاشِرِ

آخر پوشیدہ ظاہر پیچھے آنیوالے اٹھانے والے

النَّاهِي الْأَمْرَ النَّاصِحِ النَّاصِرِ الصَّابِرِ

منع کرنیوالے حکم کرنیوالے نصیحت کرنے والے مدد دینے والے صبر کرنے والے

الشَّاكِرِ الْقَانِتِ الذَّاكِرِ الْمَاجِدِ

شکر کرنیوالے دعا مانگنے والے ذکر کرنے والے مٹانے والے غالب

الْعَزِيزِ الْحَامِدِ الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ الْمُتَوَكِّلِ

بزرگ حمد کرنے والے یقین کرنے والے عبادت کرنیوالے توکل کرنیوالے

الزَّاهِدِ الْقَائِمِ الْقَاعِدِ الرَّكَعِ

زہد کرنے والے کھڑے ہوئے والے نماز میں بیٹھنے والے رکوع کرنے والے

السَّاجِدِ التَّابِعِ الشَّهِيدِ الْوَرِيِّ الْحَمِيدِ

سجدہ کرنے والے متابع گواہ دوست خدا ستودہ

الْبُرْهَانَ الْحُجَّةَ الْمَطَّاعِ الْمُخْتَارِ

دلیل حجت اطاعت کئے کئے برگزیدہ

الْغَاضِعِ الْخَاشِعِ الْبِرِّ الْمُسْتَنْصِرِ

عاجزی کرینوالے فروتنی کرے والے نیک مدد کرنے والے

الْحَقِّ الْمُبِينِ طَهَّ يَسَّ الْمُرْمَلِ

راست و روشن طہ یس کبیل پوش

الْمَدَّ ثَرِّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ

چادر بیٹنے والے سردار پیغمبروں کے اور پیشوا پرہیزگاروں کے

وَأَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَحَبِيبِ رَبِّ

اور آخر تمام نبیوں کے اور دوست پروردگار

الْعَالَمِينَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ

تمام جہانوں کے پیغمبر برگزیدہ اور رسول

الْمُجْتَبَى وَالْحَكَمِ الْعَدْلِ اللَّطِيفِ

مقبول اور منصف عادل پاکیزہ

الْخَيْرِ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ الْعَزِيزِ الرَّءُوفِ

خبردار دانا جاننے والے غالب حجت والے

الرَّحِيمِ الْغَفُورِ الشَّكُورِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ

مہربان بخشنے والے شکر کرنے والے برتر بزرگ آپ کے

نُورِكَ الْقَدِيمِ وَصِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ

نور قدیم اور راہ آپ کی جو سیدھی

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيكَ

محمد بندے تیرے اور رسول تیرے اور برگزیدہ تیرے

وَخَلِيلِكَ وَحَبِيبِكَ وَوَلِيِّكَ وَنَبِيِّكَ

اور دوست تیرے اور حبیب تیرے اور ولی تیرے اور نبی تیرے

وَأَمِينِكَ وَدَلِيلِكَ وَنَجِيكَ وَ

اور امانت دار تیرے اور تیرا راستہ دکھانے والے اور ہمارا تیرے اور

نُخَبَتِكَ وَذَخِيرَتِكَ وَخَيْرَتِكَ وَإِمَامِ

برگزیدہ تیرے اور ذخیرہ تیرے اور مختار تیرے اور پیشوا

الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ

نیکی کے اور کھینچنے والے نیکی کے اور بھیجے ہوئے واسطے رحمت کے

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ

پیغمبر امی عرب کے رہنے والے قبیلہ قریش سے اولاد ہاشم سے

الْبَطْحَى الْمَكِّي الْمَدَنِي التَّهَامِي

بطحا والے مکہ والے مدینہ والے تہامہ والے

الشَّاهِدِ الْمَشْهُودِ الْوَلِيِّ الْمُقْرَبِ

گواہ گواہی دیئے گئے دوست مقرب

الْعَبْدِ الْمَسْعُودِ الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ الْحَسِيبِ

بندے نیک محبوب سفارش کرنے والے صاحب حسب

الرَّفِيعِ الْمَلِيحِ الْبَدِيعِ الْوَاعِظِ الْبَشِيرِ

بلند مرتبہ ملاحت والے نادر نصیحت کرنے والے بشارت دینے والے

النَّذِيرِ الْعَطُوفِ الْحَلِيمِ الْجَوَادِ الْكَرِيمِ

ڈرانے والے بہت مہربان تحمل والے سخی بخشش کرنے والے

الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الْمَكِينِ الصَّادِقِ

پاک صاحب برکت صاحب مرتبہ سچے

الْمَصْدُوقِ الْأَمِينِ الدَّاعِي إِلَيْكَ

سچا کئے گئے امانت دار بلانے والے خلق کے طرف تیرے

بِأَذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ الَّذِي أَدْرَكَ

حکم تیرے سے چراغ روشن ایسے کہ جس نے جانا اصل

درد ۲۶۳ کبریٰ اجمرو
الْحَفَائِقُ بِجَمِيَّتِهَا وَقَارِ وَقَاقِ الْخَلَائِقِ

چیزوں کو تمام و کمال اور کامیاب ہوئے اور بالا ہوئے مخلوقات

بِرَمِّمَتِهَا وَجَعَلْتَهُ حَبِيبًا وَنَاجِيَةً

پرساری اور بنایا تو نے ان کو دوست اور ہراز کیا تو نے اُن کو

قَرِيْبًا وَادْنَيْتَهُ سَرَقِيْبًا وَخَشْتَتْ

قرب ہے اور نزدیکی دی تو نے اُن کو نگہبان ہو کر اور محترم کی تو نے

بِهِ الرِّسَالَةَ وَالذَّلَالَهَ وَالْبَشَارَةَ

ان پر رسالت اور راہنمائی اور خوشخبری

وَالنَّذَارَةَ وَالنَّبُوَّةَ وَنَصْرَتَهُ بِالرَّعْبِ

اور ڈرانے اور نبوت کو اور مدد کی تو نے ان کی ساتھ دہشت کے

وَظَلَلْتَهُ بِالسُّحُبِ وَرَدَدْتْ لَهُ الشَّمْسَ

اور سایہ دیا تو نے ان کو ابر کا اور پھیرا تو نے واسطے ان کے آفتاب کو

وَشَقَقْتْ لَهُ الْقَمَرَ وَأَنْطَقْتْ لَهُ

اور پھاڑا تو نے واسطے ان کے چاند کو اور گویا کیا تو نے واسطے

الضَّبَّ وَالطَّبِيَّ وَالذَّبَّ وَالْجَذْمَ

ان کے سوسمار اور ہرن اور بھیڑیے کو اور تبنہ درخت

وَالذِّرَاعَ وَالْجَمَلِ وَالْجَبَلَ وَالْمَدْرَ

اور بازو اور اونٹ اور پہاڑ اور ڈھیلا

وَالشَّجَرَ وَالْحَجَرَ وَاتَّبَعَتْ مِنْ

اور درخت اور پیٹھر کو اور نکالا تو نے ان کی

أَصَابِعِهِ الْمَاءَ الزُّلَّالَ وَأَنْزَلَتْ

انگلیوں سے پانی اور نازل کی

مِنَ الْمُزْنِ بِدَعْوَتِهِ فِي عَامِ الْمَحَلِ وَ

تو نے ابرسفيد سے ان کی دعا سے بیچ سال قحط اور

الْجَدِبِ وَابِلَ الْغَيْثِ وَالْمَطَرِ فَاَعْتَشَوْشَبَ

خشکی کے زوردار بارش اور مینہ پھر ہری ہوئی

مِنْهُ الْقَفْرُ وَالصَّخْرُ وَالْوَعْرُ وَالسَّهْلُ

اس سے سوکھی اور پیٹھریلی اور سخت زمین اور نرم زمین

وَالرَّمْلُ وَالْحَجَرُ وَالْمَدْرُ وَأَسْرَيْتَ

اور ریگستان اور پیٹھر اور ڈھیلا اور لے گیا

بِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

تو ان کو ایک رات مسجد کعبہ سے

درد و ۲۴۵
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ إِلَى السَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ

مسجد اقصیٰ تک پھر بلند آسمانوں تک

إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ

پھر سدرۃ المنتہیٰ تک پھر اس مقام تک کہ فرق دو گوشہ کمان کا

وَأَدْنَىٰ وَأَرَبَّئِنَّهُ الْكُورَىٰ وَأَنْلَتَهُ

یا اس سے کم تھا اور دکھائی تو نے ان کو نشانی بڑی اور پہنچا تو نے

الْغَايَةَ الْقُصْوَىٰ وَكَرَّمْتَهُ بِالْمُخَاطَبَةِ

ان کو نہایت مرتبہ اعلیٰ کو اور بزرگی دی تو نے ان کو ساتھ باتیں کرنے کے

وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَافَهَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ

اور نگہبانی کے اور روبرو ہونے کے اور حضور میں جانے کے

وَالْمُعَايَنَةِ بِالْبَصْرِ وَخَصَّصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ

اور دیکھنے کے بنائی سے اور خاص کیا تو نے ان کو ساتھ وسیلہ

الْعُظْمَىٰ وَالشَّفَاعَةَ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ الْفَزَعِ

بزرگ کے اور سفارش بڑی کے دن خوف بڑے

الْأَكْبَرِ فِي الْمَحْشَرِ وَجَمَعْتَ لَهُ جَوَامِعَ

کے بڑے محشر میں اور جمع کیا تو نے واسطے ان کے

الْكَلِمِ وَجَوَاهِرِ الْحِكْمِ وَجَعَلَتْ

معنی خیز کلمات اور جواہر حکمتوں کے اور کیا تو نے ان کی

أُمَّتَهُ خَيْرًا الْأُمَمِ وَعَفَرَتْ لَهُ مَا تَقَدَّمَ

اُمت کو سب اُمتوں سے بہتر اور بخشا تو نے ان کی ہر لغزش کو جو ان سے

مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ الَّذِي بَلَغَ الرِّسَالَةَ

ہو چکی ہو (کسی خاص زمانہ میں) اور جو (اس کے) بعد ہوئی ہو وہ کہ پہنچایا انہوں

وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَتَصَحَّ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ

نے احکام بیغبری کو اور ادا کی امانت اور خیر خواہی کی اُمت کی اور دُور کیا

الْغُمَّةَ وَجَلَّى الظُّلْمَةَ وَجَاهَدَ فِي

غم کو اور روشن کیا تاریکی کو اور کوشش کی

سَبِيلِ اللَّهِ وَعَبَدَ رَبَّهُ حَتَّى آتَتْهُ

اللہ کے راستہ میں اور عبادت کی اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کی

الْيَقِينِ هَ اللَّهُمَّ اَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا

وفات ہو گئی اے اللہ بھیج ان کو مقام محمود میں کہ رشک کریں

يَغِيْطُهُ فِيهِ الْاَوْوَانُ وَالْاِخْرُونَ اَللّٰهُمَّ

آپ پر اس میں پہلے اور پچھلے اے اللہ

عَظَمُهُ فِي الدُّنْيَا بِأَعْلَى ذِكْرِهِ وَ

بڑائی دے اُن کو دُنیا میں ساتھ بلند کرے ذکر ان کے اور

أَظْهَرَ دِينَهُ وَإِبْقَاءَ شَرِيعَتِهِ وَفِي

ظاہر کرنے دین اُن کے اور باقی رکھنے شریعت ان کی اور

الْآخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ فِي أُمَّتِهِ وَأَجْرُهُ

آخرت میں ساتھ شفاعت اُن کی کے آپ کی اُمت میں اور عطا فرما

أَجْرَهُ وَمَثُوبَتَهُ وَأَبْدِ فَضْلَهُ لِلأَوْلِيَّيْنَ

اجر اور ثواب آپ کا اور ظاہر فضیلت آپ کی سب پہلوں

وَالْآخِرِينَ بِالمَقَامِ المَحْمُودِ وَتَقْدِيمِهِ

اور پہلوں کے لیے مقام محمود میں اور ساتھ مقدم کرنے ان کے

عَلَى كَافَّةِ الْمُقَرَّبِينَ بِالشَّهَادَةِ اللَّهُمَّ

اوپر تمام مقربوں حاضر بارگاہ کے اے اللہ

تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ

قبول کر ان کی بڑی شفاعت کو اور اُوچھا کر ان کے بلند

الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ

درجہ کو اور عطا کر اُن کو ان کے مطالب دُنیا اور

وَالأُولَى كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

آخرت میں جیسا کہ دیا تو نے ابراہیم اور موسیٰ کو

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْ أَكْرَمِ عِبَادِكَ

اے اللہ کر تو ان کو اپنے تمام بندوں میں سب سے بزرگ

عَلَيْكَ شَرَفًا وَكَرَامَةً وَوَمِنْ أَرْفَعِهِمْ

باعتبار بڑائی کے اور کرامت کے اور سب سے بلند اپنے

عِنْدَكَ دَرَجَةً وَأَعْظِمِهِمْ خَطَرًا

نزدیک باعتبار درجہ کے اور سب سے بڑا باعتبار قدر کے

وَأَمْكِنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً اللَّهُمَّ

اور سب سے توانا نزدیک اپنے باعتبار شفاعت کے اے اللہ

عَظِيمٌ بِرُحْمَانِهِ وَأَقْبِلْ حُجَّتَهُ وَأَبْلِغْهُ

باعظمت کر ان کی دلیل کو اور ظاہر کر اُن کی دلیل نبوت کو اور

مَا مَوْلَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ

پہنچا ان کو ان کی آرزو تک ان کے اہل بیت اور انکی اولاد میں اے اللہ

اتَّبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأُمَّتِهِ مَا نُقِرُّ بِهِ عَيْنُهُ

پیچھے پہنچا تو ان کی اولاد سے اور امت انکی سے وہ نعمت کہ روشن ہو اس آنکھ

وَأَجْزَىٰ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ بِهِ نَبِيًّا

ان کی اور بدلہ دے ان کو ہم سے بہت اچھا اس سے کہ دیا تو نے کسی نبی کو

عَنْ أُمَّتِهِ وَأَجْزَىٰ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ خَيْرًا

اُن کی اُمت سے اور بدلہ دے تو سب نبیوں کو اچھا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود و سلام بھیج اوپر سردار ہمارے محمد

عَدَدَ مَا شَاهَدَتْهُ الْأَبْصَارُ وَسَبْعَةٌ

(صلی اللہ علیہ وسلم) کے بشمار اس کے کہ دیکھیں اسکو بینائیاں اور سنیں اس کو

الْأَذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ

کان اور درود اور سلام بھیج اوپر ان کے کہ بشمار ان کے

صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ

درود بھیجیں ان پر اور درود و سلام بھیج اوپر ان کے بشمار ان کے کہ

لَمْ يَصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا

درود نہ بھیجیں ان پر اور درود اور سلام بھیج اوپر ان کے جیسے کہ

يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ

چاہے تو اور رضا ہو تیری اس میں کہ درود بھیجا جائے ان پر اور درود

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا أَمَرْنَا أَنْ نُصَلِّيَ

اور سلام بھیج اوپر اُن کے جیسا کہ حکم کیا تو نے کہ درود بھیجیں ہم

عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي

اوپر اُن کے اور درود اور سلام بھیج اُن پر جیسا کہ سزاوار ہے

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

یہ کہ درود بھیجا جاوے اُن پر اے اللہ درود اور سلام بھیج

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نِعْمَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

اُن پر اور ان کی اولاد پر بسمتار نعمتوں اللہ تعالیٰ کے

وَأَفْضَالِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

اور افضلتوں اس کی کے اے اللہ درود اور سلام بھیج اُن پر

وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ

اور اُن کی آل پر اور اُنکے اصحاب پر اور انکی اولاد پر اور اُن کی بیبیوں پر

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَعَشِيرَتِهِ

اور اُن کی اولاد پر اور ان کے گھر والوں پر اور انکے رشتہ دار اور قبیلہ والوں پر

وَأَصْهَارِهِ وَأَخْتَانِهِ وَأَحْبَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ

اور آپ کے سسرال والوں پر اور دامادوں پر اور اُنکے دوستوں پر اور اُنکے پیروؤں پر

وَأَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ خَزِينَةَ أَسْرَارِهِ وَمَعَادِنِ

اور ان کے گروہ اور ان کے مددگاروں پر جو نگہبان ہیں انکے بھیدوں کے اور کانٹوں

أَنْوَارِهِ كُنُوزِ الْحَقَائِقِ وَهُدَاةِ الْخَلَائِقِ

ہیں انکے انوار کی خزانے حقیقتوں کے اور راہنما مخلوقات کے

وَنُجُومِ الْإِهْتِدَاءِ لِمَنْ اقْتَدَى بِهِمْ وَسَلَامٌ

اور ستارے ہدایت کے واسطے اسکے جو ان کی پیروی کرے اور سلام بھیج

تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَأَرْضِ

بہت بہت سلام دائمی ہمیشہ اور راضی ہو

عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ سُرُودًا عَدَدَ

تمام صحابہ سے رضامندی دائمی بشمار

خَلْقِكَ وَوَزْنَةَ عَرْشِكَ وَرِضًا نَفْسِكَ

خلقِ اپنی کے اور موافق وزنِ عرشِ اپنے کے اور خوشی ذاتِ اپنی کے

وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ

اور موافق اندازِ سیاہی کلماتِ اپنے کے جب تک کوئی ذکر کرے یا یاد آجے ذکر کرے

وَكُلَّمَا سَهِيَ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ صَلَوَاتٌ

اور جب تک کوئی غافل آپ کا ذکر بھولے وہ درود جو سبب ہو

تَكُونُ لَكَ رَاضِيًا وَلِحَقِّهِ آدَاءً وَلَنَا

آپ کی رضامندی کا اور ان کے حق کی ادائیگی کا اور ہمارے

صَلَاحًا وَآيَاتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ

لئے بھلائی کا اور دے ان کو مقام و وسیلہ کا اور فضیلت کا

وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ

اور مرتبہ بلند و برتر اور عطا کر ان کو

المَقَامَ الْمَحْمُودَ وَاللِّوَاءَ الْمَعْقُودَ

مقام محمود اور نشان بستہ اور حوض

وَالْحَوْضَ الْمَوْرُودَ وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَيَّ

کوثر وارد ہوگی امت اس پر اور رحمت بھیج اے اللہ اوپر

جَمِيعِ اِخْوَانِهِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سب بھائیوں ان کے کے نبیوں اور پیغمبروں

وَالْاَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ

اور ولیوں اور نیکوں اور شہیدوں اور صدیقوں

وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ

اور اپنے ملائکہ مقربین میں سے اور اوپر سردار ہمارے شیخ

مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ الْمَكِينِ

محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی کے جو صاحب مرتبہ

أَرْمِينِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

اور حامل امانت ہیں رحمتیں اللہ کی ان سب پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ درود و سلام بھیج اُوپر سردار ہمارے محمد کے

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ

اور اُوپر اولاد سردار ہمارے محمد کے کہ پہلا ہے سب خلقت سے

نُورُهُ الرَّحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدُ

نور ان کا رحمت ہے واسطے جہانوں کے ظہور ان کا موافق عدد

مَا مَضَىٰ مِنْ خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ وَمَنْ

کے اس مخلوق کے جو گزر چکی اور جو باقی ہے اور جو

سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةٌ تَسْتَعْرِقُ

نیک بخت ہیں ان میں سے اور جو بد بخت ہیں ایسی رحمت جو شمار سے

الْعَدَّ وَتَحِيْطُ بِالْحَدِّ صَلَوةٌ لَا غَايَةَ لَهَا

باہر ہو اور متجاوز ہو حد سے وہ رحمت کہ نہ حد ہو اس کی

وَلَا انْتِهَاءَ وَلَا اَمْدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ صَلَوَاتِكَ

اور نہ نہایت اور نہ اندازہ اس کا اور نہ نٹائی اس کی وہ درود اپنا

الَّتِي صَلَّيْتُ عَلَيْهِ صَلَاةً مَّعْرُوضَةً

کہ بھیجا لوئے اوپر ان کے ایسا درود کہ پیش کیا گیا

عَلَيْهِ مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ مَجْبُوبَةٌ اِلَيْهِ

اوپر ان کے قبول کیا گیا نزدیک ان کے محبوب ان کو

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ باقِيَةً بِبِقَائِكَ لَا

درود ہمیشہ رہنے والا ساتھ ہمیشگی تیری کے اور باقی ساتھ بقاء تیری کے

مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ صَلَاةً تَرْضِيكَ

انتہا اس کی ہو بجز علم تیرے کے ایسا درود کہ خوش کرے تجھ کو

وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا صَلَاةً تَمْلَأُ

اور پسند کرے تو اس کو اور خوش ہو تو بسبب اس کے ہم سے ایسا درود کہ

الْاَرْضَ وَالسَّمَاءَ مَقَامِ سَجْدَةٍ اَوَّلِ صَلَاةٍ

بھردے زمین اور آسمان کو (قلوبنا تک سجدہ میں پڑھو) ایسا درود

تَسْتَجِيبُ بِهَا دُعَاءَنَا وَتُرِي بِهَا

کہ قبول کرے تو بسبب اس کے دعا ہماری اور پاک کرے تو بسبب اس کے

نَفْسِنَا وَتُجِي بِهَا قُلُوبَنَا وَتُحِلِّ بِهَا

ہماری جانیں اور زندہ کرے بسبب اس کے ہمارے دل اور کھولے بسبب اس کے

الْعُقَدَ وَتُقَرِّبُ بِهَا الْكُرْبَ مَقَامِ سَجْدَتِهِ

گرہیں اور دور کرے تو اس سے سختیوں کو

وَيَجْرِي بِهَا لَطْفُكَ فِي أَمْرِي وَأَمُورِ

اور جاری ہو بسبب اس کے مہربانی میری میرے کام میں اور کاموں میں

لِلْمُسْلِمِينَ مَقَامِ سَجْدَتِهِ سَوْمٌ وَبَارِكْ لَنَا عَلَى

مسلمانوں کے اور برکت دے تو ہمیں اوپر

الدَّوَامِ وَعَافِنَا وَاهْدِنَا وَامْدُدْنَا

ہمیشگی کے اور سچا تو ہمیں اور براہ بتا ہم کو اور مدد دے ہم کو

وَاجْعَلْنَا آمِنِينَ وَيَسِّرْ لَنَا مَوْرِنَا مَعَ الرَّاحَةِ

اور کر ہم کو بے خوف اور آسان کر دے ہمارے لئے ہمارے کام ساتھ آرام

لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي

کے واسطے دلوں ہمارے اور بدنوں ہمارے اور ساتھ سلامتی اور عافیت کے

دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَآخِرَتِنَا وَتَوَفَّنَا عَلَى

ہمارے دین اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت میں اور وفات دے ہم کو اوپر

الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاجْمَعُنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ

قرآن اور طریقتہ بیغیر کے اور جمع کر ہمیں ان کے ساتھ جنت میں بغیر

مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ يُسْبِقُ بِنَاوَأَنْتَ

عذاب کے کہ دخول جنت سے پہلے ہو درال حالیہ تو خوش ہو

رَاضٍ عَنَّا غَيْرِ غَضَبَانٍ وَلَا تَمَكُّرٍ بِنَا

ہم سے ناراض اور نہ آزمانا ہمیں

وَاخْتِمُ لَنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ بِإِمْحَانِهِ

اور خاتمہ کر ہمارا اپنی طرف ساتھ بہتری اور عافیت کے بغیر محنت کے

أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

سب کا پاکی سے یاد کرتا ہوں پروردگار کو پروردگار بزرگی کا اس سے

يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝

جو بیان کرتے ہیں مشرک اور سلامتی اوپر پیغمبروں کے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ بِرَحْمَتِكَ

اور سب تعریف اللہ کو جو پالنے والا جہانوں کا ہے تیری رحمت سے

يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ ۝

اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے والوں سے

درود مستغاث

درود مستغاث

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ نَزَّلَ النَّبِیْنَ

تمام تعریفیں ثابت ہیں واسطے اللہ کے جس نے زینت دی نبیوں کو

بِحَبِیْبِهِ الْمُصْطَفٰی وَمَنْ عَلٰی

ساتھ حبیب اپنے پیغمبر چسپدہ کے اور احسان کیا اوپر

السُّوْمِنِیْنَ بِنَبِیِّهِ الْمَجْتَبٰی الصَّلٰوۃُ

مومنوں کے ساتھ نبی کریم اپنے برگزیدہ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ خَیْرٍ

اور سلام اوپر رسول کریم کے جو نام مبارک ان کا محمد ہے بہتر

اَلْوَرٰیءِ الْمَسِیْرِیْہِ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ

خلق کے وہ نبی کہ سیر کرایا گیا ان کو عرش مجید سے زمین کے

اِلٰی تَحْتَ الشَّرٰیءِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی

نیچے تک تمام صفات ثابت ہیں واسطے اللہ کے اوپر اس چیز

مَا مَضَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا بَقِيَ

کے جو گزری اور تمام صفتیں ثابت ہیں اللہ کی اوپر گنتی اس چیز کے جو باقی ہے

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ

دُرود اور سلام اوپر رسول اللہ کے جو محمد ہیں

خَيْرُ الْوَرَى مَدْحُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

بہتر خلق کے تعریف کی میں نے تیرے لئے اے رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَنْتَ

دُرود بھیجے اللہ تعالیٰ اوپر نبی کریم امی کے تمہیں یا

خِيَارُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

نبی برگزیدہ اللہ کے ہو فریاد پہنچے گئے طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے دُرود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولُ

اے رسول اللہ کے جو وارث ہیں انبیاء کے اے رسول

صَاحِبِ الْوَحْيِ أَحْمَدُ شَفِيعُ اللَّهِ

جو صاحب وحی ہیں نام آپ کا احمد ہے جو شفاعت کرنے والے ہیں

لہ: مَدْحُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ کا تین بار تکرار کریں ۱۲

اَلْمُسْتَعَاثُ اِلَى حَضْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

خدا کی درگاہ میں فریاد! طرف درگاہ خدا تعالیٰ کے

اَلصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ

دُرود اور سلام آپ پر اے رسول اللہ کے

اللّٰهِ رَسُوْلٌ سَيِّدُ الْكَوْنِیْنَ وَالثَّقَلِیْنَ

ایسے رسول جو سردار ہیں دو جہان کے اور دونوں گروہوں جن انیس کے

وَ اِمَامُ الْقَلْبَتَيْنِ شَفِیْعُ الْاُمَمِ فِی

اور امام ہیں دونوں قلوب کے شفاعت کرنے والے ہیں امتوں کے

الدَّارِیْنِ فَتَاْحُ فَاتِحِ اللّٰهِ الْمُسْتَعَاثُ

دونوں جہان میں کھولنے والے مشکلوں کے جاری کرنے والے امیر اللہ کے فریاد!

اِلَى حَضْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَلصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے دُرود اور سلام

عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ النَّبِیِّ الْمُصْطَفٰی

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے ایسے نبی جو برگزیدہ ہیں

رَسُوْلٌ سِرَاجِ الْعَالَمِیْنَ مَحْمُوْدٌ مَطِیْبٌ

رسول جسے چراغ تمام جہانوں کے تعریف کئے گئے پاک کئے گئے

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اُوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

السَّيِّدِ الْمَعْلَى رَسُولِ نَبِيِّ الْخَافِقِينَ

سردار بلند مرتبہ والے رسول نبی اہل مشرق اور مغرب کے

قَابِسِ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

بانٹنے والے بہتر خلق اللہ کے فریاد! طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

درگاہ خدا تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

اُوپر آپ کے اے رسول اللہ کے فریاد!

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے مدد! اے رسول اللہ کے

الشَّفَاعَاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلِصُ

شفا عتیں فرمائیے اے رسول اللہ کے رہائی

يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَىٰ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے بہتر تمام اللہ کے بندوں سے

أَفْضَلُنَا رَسُولَ نَبِيِّ سَاحِبِ الدَّارَيْنِ

افضل ہمارے رسول نبی ساتھی دونوں جہان کے

خَادِمٍ رَاطِبِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثِ إِلَىٰ

خادم پاکیزہ اللہ کے فریاد! طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّبِيُّ الْمُرَكَّبِيُّ

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے نبی پاک کئے گئے ایسے

رَسُولٍ جَوْتَا جِ الْمَحْرَمَيْنِ امْرَأَتَاهِ تَبَاجِ

رسول جو تاج ہیں مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے حرمینہ والے نیک کاموں کے منع کرنیوالے

ظَاهِرِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثِ إِلَىٰ حَضْرَةِ

بدی سے پاکیزہ اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَىٰ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَا رَسُولُ جَدِّ

اے رسول اللہ کے ہدایت کیا ہم کو رسول نے جو نانا ہیں

الطَّيِّبِينَ الْحَسَنِينَ وَالْحُسَيْنِ دَاعٍ

دو پاکوں حسن اور حسین کے بلانے والے خدا کی طرف

مُظَهَّرِ اللَّهِ الْمَسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

پاکیزہ اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَسْتَعَاثُ يَا رَسُولَ

اے رسول اللہ کے فریاد! اے رسول

اللَّهُ الْمَسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ

اللہ کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے!

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے رہائی! اے رسول اللہ کے

نَبِيِّ مَخْتَارٍ مَرْضِيٍّ إِمَامٍ رَسُولٍ

نبی پسند کئے گئے برگزیدہ کئے گئے بیستوا رسول

مُقْتَدِي الْأَيَّامِ الْمَهْدِيَّيْنَ هَادِمِيْنَ

اقتراکے گئے اماموں کے جو ہدایت یافتہ ہیں ہدایت دینے والے ظاہر کر نیوالے

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے فریاد ا طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوقیر آپ کے اے رسول اللہ

اللَّهُ هَدَانَا رَسُولٌ بِهَذَا آيَةِ اللَّهِ تَعَالَى

کے راستہ پر ہوا دکھایا ہم کو رسول نے مطابق ہدایت اللہ تعالیٰ کے

مُهْدِي الْأُمَّةِ مِنَ الضَّلَالَةِ مُهْتَدٍ

راہ راست پر لانے والے امت کے گمراہی سے ہدایت یافتہ

مَطِيعُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

فرمانبردار اللہ کے فریاد ا طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوقیر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْبُ نَارِ رَسُولِ مُهْدِي

اے رسول اللہ کے محبوب ناریسے رسول جو ہدایت کرنے والے

اَلْاُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَرَسُوْلٍ صَفِيٍّ حُجَّةِ اللّٰهِ

ہیں امت کو محمد اور رسول برگزیدہ دلیل اللہ کے

اَلْمُسْتَعَاثُ اِلَى حَضْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى الصَّلٰوةِ

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْمُسْتَعَاثُ

اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے فریاد!

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اے رسول اللہ کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے

اَلشَّفَاعَاتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْخَلَاصُ يَا

شفاعت کیجئے اے رسول اللہ کے رہائی! اے

رَسُوْلَ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ اَحْمَدٌ حَامِدٌ مَّحْمُوْدٌ

رسول اللہ کے کہ نام آپ کا محمد ہے احمد ہے حامد ہے محمود ہے

مَّحْبُوْبٌ مَّحِبُّ اللّٰهِ وَمَحِبُّنَا رَسُوْلٌ

پیارے خدا کے دوست رکھنے والے اور ہم سے محبت کرنے والے رسول

كَرِيْمٌ اللّٰهُ مَرْضِيٌّ حَبِيْبُنَا رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ

کریم اللہ کے برگزیدہ ہمارے محبوب رسول صاحب کرم

مُرْتَضَى خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمُسْتَغَاثُ إِلَى

مقبول خلیفہ اللہ کے فریاد! طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَسُولَنَا رَسُولُهُ

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے رسول ہمارے رسول

عَلَى الدَّوَامِ نَبِيِّ طَهَ يَسَّ قَائِمٍ حَامِدٌ

ہمیشگی کے نبی طہ یس قیام کرنیوالے عبادت میں

اللَّهُ الْمُسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

تعریف کرنیوالے اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

أَمِيرِنَا رَسُولِ نَبِيِّ كَرِيمٍ مُحَمَّدٌ

امیر ہمارے رسول اور نبی صاحب کرم محمد

رَسُولِ اللَّهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ نَاصِرِ كَلِيمٍ

رسول اللہ کے نام آپ کا احمد ہے مدد دینے والے کلام کرنے والے

اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ سے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ

فریاد! اے رسول اللہ کے مدد کیجئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے اے رسول اللہ کے

الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَعِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

رہائی! اے رسول اللہ کے مدد کرنے والے ہمارے رسول

وَدَرْبِي الْيَاسِينَ إِمَامٍ أَمِينٍ اللَّهُ

اور موتی چمکدار نبی کریم وہ نام مبارک یاسین ہے پیشوا امانت دار اللہ کے

الْمُسْتَعَانُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُصَدِّقًا

اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے تصدیق کرنے والے

رَسُولٌ وَجَبِيْبٌ نَبِيٌّ مَرْمِلٌ بِيَانِ رَسُوْلٍ

ہمارے پیغمبر اور محبوب نبی کلیم پوشش بیان کرنے والے رسول

اللّٰهُ الْمُسْتَعَاثُ اِلَى حَضْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

شَاهِدُنَا شَافِعُنَا رَسُوْلٌ وَنَبِيٌّ مَّدِيْنٌ

شاہد ہمارے شفاعت کرنے والے ہمارے رسول اور نبی لباس پوشش

صَاحِبُ الْقُرْاٰنِ نُوْرُ اللّٰهِ الْمُسْتَعَاثُ

صاحب قرآن کے نور اللہ کے فریاد!

اِلَى حَضْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْمُسْتَعَاثُ يَا

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے فریاد! اے

رَسُوْلَ اللّٰهِ الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

رسول اللہ کے فریاد! اے رسول اللہ کے

الشِّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَاصُ

شفاغت کیجئے اے رسول اللہ کے رہائی !

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَذْكِرُنَا رَسُولُ مَعْطَرٍ

اے رسول اللہ کے یاد دلانے والے ہمارے رسول خوشبو دار

الرُّوحِ مُطَهَّرِ الْجِسْمِ يَا جَوَادُ اللَّهِ

روح والے پاک جسم والے نیکی کرنے والے سخی اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد ! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سُلْطَانُ

اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے بادشاہ

الْأَنْبِيَاءِ وَبُرْهَانَ الْأَصْفِيَاءِ مُفْخَرِنَا

نبیوں کے اور دلیل اہل صفا کے جن پر ہم کو فخر ہے

رَسُولُ صَاحِبِ الْفُرْقَانِ عَلِيٌّ مَكِّيٌّ

رسول قرآن والے بلند مرتبہ والے مکہ والے

شَكَوْرُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

شکر گزار اللہ کے فریاد ! طرف درگاہ

اللّٰهُ تَعَالٰى الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِمَامُ الْاَتْقِيَاءِ ناصِرُنَا

اے رسول اللہ کے امام پرہیزگاروں کے مدد کرنے والے ہمارے

رَسُوْلٌ صَاحِبُ الْكُوْتْرِ مَرِيْبٌ مَدِيْنِي

رسول صاحب حوض کوثر کے مریب مدینہ والے

مُنِيْرٌ اللّٰهُ الْمُسْتَعَاثُ اِلَى حَضْرَةِ

نورانی بندے اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللّٰهُ تَعَالٰى الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اے رسول اللہ کے فریاد! اے رسول اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الشَّفَاعَاتُ

مدد مانگتے اے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْخَلَّاصُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اے رسول اللہ کے رہائی! اے رسول اللہ کے

سِرَاجُ الْأَوْلِيَاءِ ضِيَاءُ نَارِ رَسُولٍ

چراغ ولیوں کے روشنی ہمارے رسول

صَاحِبُ الْمِيزَانِ أَبْطِحِي قَرِيبَ اللَّهِ

صاحب میزان کے مکہ والے مقرب اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِرُهَانَ

اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے برہان

الْأَصْفِيَاءِ رَسُولُ صَاحِبِ الْبُرَاقِ

اہل صفا کے رسول براق والے

سَيِّدِ الْقَوْمِ عَرَبِيٍّ يَتِيمِ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

سردار قوم کے عرب والے یتیم اللہ کے فریاد!

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَفِيعَنَا رَسُولُ

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے شفیع ہمارے رسول

مَجْرِي مَهْدِي قَرِيشِي شَهِيدُ اللَّهِ

نیک جزا دینے والے ہدایت یافتہ قریشی شاہد اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے فریاد!

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے

الْشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَاصُ

شفاعت فرمائیے اے رسول اللہ کے رہائی!

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِمَامَ الْمُؤْمِنِينَ وَزَيْنَةَ

اے رسول اللہ کے پیشوا مؤمنوں کے اور زینت

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَوَسِيلَتِنَا يَا رَسُولَ

نبیوں اور پیغمبروں کے اور وسیلہ ہمارے رسول

خَادِمِ الْفُقَرَاءِ حِجَازِي تَذِيرُ اللَّهِ

خدمت کرنے والے فقیروں کے حجاز والے اللہ کے تہرسے ڈرانے والے

الْمُسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

خَتْمُ الْأَنْبِيَاءِ أَحْمَدُ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ

آخر آنے والے نبیوں کے نام مبارک آپ کا احمد ہے اور آخر سب انبیاء

رَسُولُ مَا حَى الْكُفْرُ وَالْبِدْعَةُ مُحَمَّدٌ

کے رسول مٹانے والے کفر کے اور بدعت کے محمد

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

بیٹے عبد اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَ رَسُولُنَا مُرْسَلٌ

اے رسول اللہ کے سچ فرمایا رسول ہمارے نے پیغمبر

مُتَوَسِّطٌ رَسُولٌ رَحِيمٌ اللَّهُ الْمُسْتَغَاثُ

میانہ رو رسول رحیم اللہ کے فریاد!

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ يَا

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے فریاد! اے

رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رسول اللہ کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے

الْشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَاصُ

شفاعت فرمائیے اے رسول اللہ کے رہائی!

يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدِنَا رَسُولُ مَسْتَعِيثٍ

اے رسول اللہ کے سردار ہمارے پیغمبر فریاد چاہنے والے

مُقْتَصِدٍ حَلِيمٍ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى

میانہ روی کرنیوالے بردبار بندے اللہ کے فریاد! طرف

حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْتَاثًا يَا رَسُولَ

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے فریاد کو پہنچئے اے رسول

الثَّقَلَيْنِ أَنْتَ حَقٌّ مُبِينٌ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ

انسانوں اور جنوں کے آپ۔ بحق ہیں ظاہر کر نیوالے اللہ کے فریاد!

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَبَّ بِهَرِ كَلِمَةٍ خَوَازِمُ شَوْدُ

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے (ہر کلمہ تین بار پڑھا جائے)

الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

فریاد! اے رسول اللہ کے مدد کیجئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ

اے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے اے رسول

اللَّهُ الْمَشْفَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاعْظُنَا

اللہ کے سفارش فرمائیے اے رسول اللہ کے نصیحت کر نیوالے ہم کو

رَسُولٌ وَرَسُولُهُ الْمَجْتَبِيُّ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ

رسول اور ایسے رسول اللہ کے جو برگزیدہ ہیں صاحب رسالت ہیں

وَالْقَدِيمُ حَبِيبُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ

پہلے ہیں شروع سے (پیغمبر) ہیں محبوب ہیں اللہ کے فریاد!

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

طرف اور درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ يَا

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے فریاد اے

رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رسول اللہ کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے

الْشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَاصُ

شفاعت فرمائیے اے رسول اللہ کے رہائی!

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْرَمَ رُسُلٍ صَاحِبُ

اے رسول اللہ کے سب سے زیادہ، ہم پر کرم کرنے والے رسول شریعت

الشَّرِيعَةِ وَكَاشَفُ الْغَمِّهِ إِخْرَ عَزِيزٍ

والے اور غموں کو دور کرنے والے آخر (پیغمبر) عزیز

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَبُرْهَانَ الْأَتْقِيَاءِ رَشِيدِنَا

تقویٰ والے اور برہان پرہیزگاروں کے ہم کونیک ہدایت کرنے

رَسُولُ صَاحِبِ الطَّرِيقَةِ شِفَاءً وَفَصِيحٌ

والے رسول صاحب شریعت شفا دینے والے (ظاہر و باطن امراض کے)

اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَىٰ حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

خوشگوار اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

دُرُود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

أَمَّا بِكَ أَنْتَ نَبِينَا رَسُولُ صَاحِبِ

ایمان لائے ہم آپ پر آپ ہمارے نبی ہیں رسول ہیں صاحب

الْحَقِيقَةِ مُضَرِّي بِشَيْرِ تَذِيرِ اللَّهِ

معرفت ہیں منسوب طرف مضر کے بشارت دینے والے ڈرنے والے اللہ سے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَىٰ حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

دُرُود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

اَلْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْمُسْتَعَاثُ

فریاد! اے رسول اللہ کے درود کیجئے

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُوْلَ

اے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے اے رسول

اللّٰهُ الْخَالِدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِمَامُ

اللہ کے خلد رہاؤ! اے رسول اللہ کے امام

اَلْاُمَمِ مُقَدِّمًا رَسُوْلُ صَاحِبِ الْبَعْرِثَةِ

امتوں کے رہم کو جنت میں پہلے بھیجئے والے رسول صاحب معرفت کے

بُرْهَانَ رَحْمَةِ اللّٰهِ الْمُسْتَعَاثُ اِلَى

دلیل رحمت اللہ کے فریاد! طرف

حَضْرَةِ اللّٰهِ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

كَأَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَبِيْرُنَا رَسُوْلُ

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے بزرگ ہمارے رسول

صَاحِبِ اَلْمِيْنَةِ ظَاهِرُ كَرِيْمِ اللّٰهِ

صاحب امان کے ظاہر کریم اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَىٰ حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

شریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول

اللَّهُ سَيُدُّ الْعَاصِيْنَ رَسُوْلًا صَاحِبُ

اللہ کے تکیہ گاہ گنہگاروں کے رسول صاحب

الْجَنَّةِ قَارِعَ جَهَنَّمَ سُلْطَانَ تِهَامِيٍّ

جنت کے خالی کرنے والے دوزخ کے بادشاہ تہامی یعنی مکہ معظمہ والے

مُؤْمِنٌ اللَّهُ الْمُسْتَعَاثُ إِلَىٰ حَضْرَةِ

ایمان لانے والے اللہ پر شریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَىٰ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ يَا رَسُولَ

اے رسول اللہ کے شریاد! اے رسول

اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ

اللہ کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَّاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے رہاؤ! اے رسول اللہ کے

فَقِيهِنَا رَسُولُ صَاحِبِ الصِّرَاطِ مُبِينٌ

دانا ہمارے رسول صاحب صراط کو پہنچانے والے

عَاقِبُ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

پیچھے آنے والے نبی اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ وَلِيُّنَا رَسُولُ صَاحِبِ

اے رسول اللہ کے آپ ہمارے ولی ہیں رسول ہیں صاحب ہیں

الشَّفَاعَاتِ بِإِذْنِ بَاطِنِ خَلِيلِ اللَّهِ

شفاعتوں کے سخی ہیں صاحب باطن ہیں پیارے ہیں اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

فریاد باطن طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے

شَفِيعُ عَوَامِنَا رَسُولُ صَاحِبِ النَّارِ

شفاعت کرنے والے ہم سب کے پیغمبر صاحب مناج

وَالْمِعْرَاجِ مُحَلِّلٌ بِإِذْنِ اللَّهِ الْمَسْتَعَاثُ

اور معراج کے حلال کرنے والے اللہ کی اجازت سے فریاد!

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَسْتَعَاثُ يَا

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے فریاد! اے

رَسُولَ اللَّهِ الْمَسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

رسول اللہ کے مدد کیجئے اے رسول اللہ کے

الشَّفَاعَاتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَّاصُ

شفاعت فرمائیے اے رسول اللہ کے رہائی!

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمِنَ النَّارِ مُخْلِصُنَا

اے رسول اللہ کے اور دوزخ سے پھڑالے والے ہم کو

رَسُولُ صَاحِبِ الْمِحْرَابِ حَاشِرُ

رسول صاحب محراب کے جمع کرنے والے

دُرُودُ
۳۱
مَسْتَعَاثُ
يَا نَبِيَّ اللَّهِ الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

نبی اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول

اللَّهُ أَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

اللہ کے افضل سب نبیوں سے اور صدیقوں سے

وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ مَحْبُوبِنَا رَسُولُ

اور شہیدوں سے اور نیکو کاروں سے پیارے ہمارے رسول

صَاحِبِ الْبَيْتِ بِرَخِطِيبٍ رَحْمَةُ اللَّهِ

صاحب بیت کے خطیب دینے والے رحمت اللہ کے

الْمُسْتَعَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

فریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

درود اور سلام اوپر آپ کے لئے رسول اللہ کے

مُبَشِّرِنَا رَسُولِ صَاحِبِ الْبَيْتِ عَامِرٍ

بشارت دینے والے ہم کو رسول صاحب بیت اللہ کے آباد کرنے والے

كَعْبَةِ اللَّهِ الْمُسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ

کعبۃ اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَغَاثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے فریاد! اے رسول اللہ کے

الْمُسْتَعَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ

مدد کیجئے اے رسول اللہ کے شفاعت فرمائیے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے رہائی! اے رسول اللہ کے

أَكْبَرُنَا رَسُولُ صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ عَالِمُ

بزرگ ہمارے رسول صاحب معراج کے عالم

عَنِّي اللَّهُ الْمُسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

عنی اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول

اللَّهُ نَبِيُّ آخِرِ الزَّمَانِ رَسُولُ صَاحِبِ

اللہ کے نبی آخر زمانہ کے رسول صاحب

الرَّجْتِهَادِ مُنْتَقِمِ مَكْرَمِ اللَّهِ الْمُسْتَعَانِ

اجتہاد کے بدلہ لینے والے بزرگ بنائے ہوئے اللہ کے فریاد!

إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي الدِّينِ صَادِقُنَا

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے اور دین میں راست گو

رَسُولِ صَاحِبِ الْقِيَامَةِ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ

رسول زبیر روز قیامت کے حق فرمانے والے

شَفِيعِ اللَّهِ الْمُسْتَعَانِ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

شفاعت کرنے والے اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول

اللَّهُ الْمُسْتَعَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعَانِ

اللہ کے فریاد! اے رسول اللہ کے مدد کیجئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّفَاعَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اے رسول اللہ کے شفاعت کیجئے اے رسول اللہ کے

الْخَلَاصُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَشْفَعِ الْأُمَّةِ

رہائی! اے رسول اللہ کے شفاعت قبول کئے گئے واسطے امت

يُعِينُنَا بِالشَّفَاعَةِ رَسُولُ صَاحِبِ النُّبُوَّةِ

مدد کرنے والے ہمارے ساتھ شفاعت کے رسول صاحب نبوت کے

مُحَرَّمِ نَبِيِّ اللَّهِ الْمَسْتَغَاثِ إِلَى حَضْرَةِ

حرمت کئے گئے نبی اللہ کے فریاد! طرف درگاہ

اللَّهُ تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام اوپر آپ کے اے

رَسُولَ اللَّهِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ سَابِقُنَا

رسول اللہ کے نبی رحمت کے نیک کام کی طرف ہم سے سبقت کرنے والے

رَسُولُ صَاحِبِ الدَّارَيْنِ حَرِيصٍ عَلَيَّ

رسول صاحب دونوں جہان کے حرص کرنے والے

الطَّاعَةِ رِعْوَفِ اللَّهِ الْمَسْتَغَاثِ إِلَى

طاعت پر مہربان بندے اللہ کے فریاد! طرف

حَضْرَةَ اللَّهِ تَعَالَى الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ

درگاہ اللہ تعالیٰ کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَيِّدُ الْجِنِّ

اوپر آپ کے اے رسول اللہ کے سردار جن

وَالْإِنْسِ نَاهٍ بَيْنَنَا رَسُولٌ صَاحِبُ

اور انسان کے منع کرنیوالے بڑے کاموں سے نبی ہمارے رسول صاحب

الْأُمَّةِ وَالنِّعْمَةِ هَاشِمِيٌّ كَرَامَةٌ لِلَّهِ

آمت کے اور صاحب نعمت کے اولاد ہاشم کے بزرگ اللہ کے

الْمُسْتَغَاثُ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى

شریاد! طرف درگاہ اللہ تعالیٰ کے

الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

درود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول

اللَّهِ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ وَجَدِّ الْحَسَنِ

اللہ کے خدمت کرنے والے حرمین کے اور نانا حسن اور حسین کے

وَصَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ رَسُولِ حَبِيبٍ

اور صاحب قباب قوسین کے رسول محبوب

قَرِيبُ الْمُسْتَغَاثِ إِلَى حَضْرَةِ اللَّهِ

مقرب اللہ کے فریاد! طرف درگاہ اللہ

تَعَالَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

تعالیٰ کے دُرُود اور سلام اوپر آپ کے اے رسول

اللَّهُ مَقْرِبًا رَسُولٌ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ

اللہ کے نزدیک کرنے والے ہم کو رسول طرف رحمت اللہ

تَعَالَى مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ

تعالیٰ کے لاکھوں دُرُود اور

سَلَامٍ وَرَحْمَةٍ وَبَرَكَاتٍ عَلَى أَكْرَمِ

سلام اور رحمت اور برکت اوپر بزرگ ترین

الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَصْفِيَاءِ خَاتَمِ رُسُلِ

نبیوں کے اور اہل صفاء کے آخر اللہ کے

اللَّهُ مُحَمَّدٍ رَسُولَ اللَّهِ الْمُصْطَفَى

پیغمبروں کے محمد رسول اللہ کے جو برگزیدہ ہیں

وَحَبِيبِهِ الْمُرْتَضَى وَصَفِيهِ الْمَجْتَبَى

اور خدا کے برگزیدہ محبوب پر اور خدا کے صاف باطن مقبول بندے پر

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

رحمت نازل فرمائے اللہ اُوپر آپ کے اور آپ کی آل کے اور سلام

كَثِيرًا كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ

بھیجے بہت بہت اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

اللَّهُمَّ ارْحَمْ أَبَا بَكْرٍ النَّقِيُّ وَعُمَرَ

اے اللہ رحمت بھیج ابوبکر صاحب نقوی پر اور عمر پر کہ

النَّقِيُّ وَعُثْمَانَ الزُّكِّيَّ وَعَلِيًّا الْوَفِيَّ

پاک ہیں اور عثمان پر کہ پاک ہیں اور علی پر جو وفا کرنے

أَسَدَ اللهِ الْمُرْتَضَى وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ

والے ہیں شیر خدا کے برگزیدہ اور حضرت فاطمہ الزہراء پر

وَخَدِيجَةَ الْكُبْرَى وَأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ

اور حضرت خدیجہ کبریٰ پر اور مسلمانوں کی ماں

عَائِشَةَ الصِّدِّيقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

حضرت عائشہ صدیقہ پر راضی ہوا اللہ ان سے

وَالْحُسَيْنَ الرِّضَا وَالْحُسَيْنَ الشَّهِيدَ

اور امام حسن صاحب رضا پر اور امام حسین شہید

الْمُجْتَبَىٰ وَشَهِدَ آءَ الْكُرْبَلَاءِ وَالسَّعْدِ

برگزیدہ پر اور تمام شہدار کربلا پر اور سعد

وَالسَّعِيدِ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ

اور سعید اور طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن

بْنِ عَوْفٍ وَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجِرَّاحِ

بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح پر

وَالْعَشْرَةَ الْمُبَشِّرَةَ وَسَائِرَ الصَّحَابَةِ

اور دس اصحاب پر کہ خوش خبری دینے گئے ہیں جنت کی اور تمام اصحاب پر

وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ وَالتَّابِعِينَ مِنْ

اور خلفائے راشدین پر اور صحابہ کے دیکھنے والے مومنوں

أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ رِضْوَانُ

پر آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے رضائے الہی

اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَسْأَلُكَ أَنْ

ان سب کے ساتھ ہو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ

تَغْفِرَ لِي وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

بخش دیجئے مجھ کو اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ اللَّهُمَّ

اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ

اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلسَّنِّ تَوَالِدِ

بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور میری اولاد کو

وَأَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

اور رحم کر ان دونوں پر جیسا پرورش کی انھوں نے میری بچپن میں

وَأَغْفِرْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور بخش دے تمام ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

اور اسلام والوں کو اور اسلام والیوں کو جو زندہ ہیں ان میں سے

وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ

اور خوفت ہو چکے ہیں بے شک آپ دعا میں قبول کرنے والے ہیں

وَمُنْزِلُ السَّلَامِ وَالرَّافِعُ الدَّرَجَاتِ

اور نازل کرنے والے ہیں برکتوں کے اور بلند کرنے والے ہیں درجوں کے

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ

اور رحمت بھیجے اللہ اُوپر بہترین خلق اپنی کے کہ نام آپ کا محمد ہے

وَاللَّهُ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ

اور ان کی اولاد اور اصحاب سب پر اپنی رحمت سے

يَا رَحْمَةً الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ

اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ رحمت نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ

ہمارے سردار محمد پر جو نبی امی ہیں پاکیزہ اور

الَّتِي صَلَوَةٌ تَحُلُّ بِهَا الْعُقَدُ

ہاں باطن میں ایسی رحمت کہ جس کی برکت سے ہمارے باطن کی گریں کھل جائیں

وَتَفُكُّ بِهَا الْكُرْبُ صَلَوَةٌ تَكُونُ

اور بے چسبیاں دور ہو جائیں ایسی رحمت جو

لَكَ رِضَىٰ وَوَلِحَقُّهُ آدَاءٌ وَعَلَىٰ إِلَهٍ وَ

آپ کے لئے رضامندی اور ان کے حق کی ادائیگی کا سبب اور آپ کی آل اور

أَنْزُ وَأَجْهٍ وَأَهْلٍ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ

آپ کی بیویوں اور آپ کے گھر والوں اور آپ کے صحابہ پر

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

اور برکت اور سلام بھیج

دُرُودٌ مُقَدَّسٌ

دُرُودٌ مُقَدَّسٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا إِلَهِي بِحُرْمَتِ أَقْوَالِ مُحَمَّدٍ وَ

یا الہی! بحرمتِ اقوالِ محمدؐ اور

أَفْعَالِ مُحَمَّدٍ وَأَحْوَالِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ

افعالِ محمدؐ اور احوالِ محمدؐ اور اصحاب

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی!

بِحُرْمَةِ بَدَنِ مُحَمَّدٍ وَبَطْنِ مُحَمَّدٍ

بحرمتِ بدنِ محمدؐ اور بطنِ محمدؐ

وَبِرُكَّةِ مُحَمَّدٍ وَبَيْعَةِ مُحَمَّدٍ وَبُرَاقِ

اور رکتِ محمدؐ اور بیعتِ محمدؐ اور بُراقِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم

يَا اِلٰهِي بِحُرْمَةِ تَوْلَدِ مُحَمَّدٍ وَتَعْبُدِ

یا الہی! بحرمت تولد محمد اور تعبد

مُحَمَّدٍ وَتَهَجَّلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ

محمد اور تہجّل محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اِلٰهِي بِحُرْمَةِ ثَنَاءِ

علیہ وسلم یا الہی بحرمت ثناء

مُحَمَّدٍ وَثَوَابِ مُحَمَّدٍ وَثِمَاتِ مُحَمَّدٍ

محمد اور ثواب محمد اور ثمات محمد

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اِلٰهِي بِحُرْمَةِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت

جَلَالِ مُحَمَّدٍ وَجَمَالِ مُحَمَّدٍ وَجَلِّ

جلال محمد اور جمال محمد اور جلّ

مُحَمَّدٍ وَوَجْهَةِ مُحَمَّدٍ وَجَعْدِ مُحَمَّدٍ

محمد اور وجہہ محمد اور جعد (گیسو) محمد

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اِلٰهِي بِحُرْمَةِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت

حُسْنِ مُحَمَّدٍ وَحَسَنَاتِ مُحَمَّدٍ

حُسنِ محمد اور حَسَنَاتِ محمد

وَحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَحَالِ مُحَمَّدٍ وَحَلِيَّتِهِ

اور حرمتِ محمد اور حالِ محمد اور حلیتِ محمد

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی!

بِحُرْمَةِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَخُلُقِ مُحَمَّدٍ

بحرمتِ خلقتِ محمد اور خلقِ محمد

وخطبَةِ مُحَمَّدٍ وَخَيْرَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اور خطابتِ محمد اور خیراتِ محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ دِينِ

اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمتِ دین

مُحَمَّدٍ وَدِيَانَةِ مُحَمَّدٍ وَدَوْلَةِ مُحَمَّدٍ

محمد اور دیانتِ محمد اور دولتِ محمد

وَدَرَاجَاتِ مُحَمَّدٍ وَدُعَاءِ مُحَمَّدٍ

اور درجاتِ محمد اور دُعَاءِ محمد

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اِلٰهِي

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی

بِحُرْمَةِ ذَاتِ مُحَمَّدٍ وَذِكْرِ مُحَمَّدٍ

بحرمت ذات محمد و ذکر محمد اور

ذَوْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا اِلٰهِي بِحُرْمَةِ رُوحِ مُحَمَّدٍ وَرَأْسِ

یا الہی بحرمت روح محمد اور راس

مُحَمَّدٍ وَرِزْقِ مُحَمَّدٍ وَرَفِيقِ مُحَمَّدٍ

محمد اور رزق محمد اور رفیق محمد

وَرِضَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور رضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا اِلٰهِي بِحُرْمَةِ زُهْدِ مُحَمَّدٍ وَزُهَادَةِ

یا الہی بحرمت زہد محمد اور زیادہ

مُحَمَّدٍ وَزَارِي مُحَمَّدٍ وَزَيْنَةِ مُحَمَّدٍ

محمد اور زاری محمد اور زینت محمد

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اِلٰهِي

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی

بِحُرْمَةِ سِيَادَةِ مُحَمَّدٍ وَسَعَادَةِ

بحرمت سیادت محمد اور سعادت

مُحَمَّدٍ وَسُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَسِرِّ مُحَمَّدٍ

محمد اور سنت محمد اور سر محمد

وَسَلَامٍ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا اِلٰهِي بِحُرْمَةِ شَرَعِ مُحَمَّدٍ وَشَرَفِ

یا الہی بحرمت شرع محمد اور شرف

مُحَمَّدٍ وَشَوْقِ مُحَمَّدٍ وَشَادِ مُحَمَّدٍ

محمد اور شوق محمد اور شاد محمد

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اِلٰهِي بِحُرْمَةِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت

صِدْقِ مُحَمَّدٍ وَصَوْمِ مُحَمَّدٍ

صدق محمد اور صوم محمد اور

صَلَاةٍ مُحَمَّدٍ وَصَفَاءِ مُحَمَّدٍ وَصَبْرٍ

صلوة محمد اور صفاء محمد اور صبر

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی

بِحُرْمَةِ ضِيَاءِ مُحَمَّدٍ وَضَمِيرِ مُحَمَّدٍ

بحرمت ضیاء محمد اور ضمیر محمد

وَضَحَاءِ مُحَمَّدٍ وَضَعْفِ مُحَمَّدٍ

اور ضحاء محمد اور ضعف محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمت

طَلْعَةِ مُحَمَّدٍ وَطَهَارَةِ مُحَمَّدٍ وَطَهْرٍ

طلعت محمد اور طہارت محمد اور طہر

مُحَمَّدٍ وَطَرِيقِ مُحَمَّدٍ وَطَوَافِ مُحَمَّدٍ

محمد اور طریق محمد اور طواف محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی

بِحَرَمَةِ ظَاهِرِ مُحَمَّدٍ وَظَهْرِ مُحَمَّدٍ

بحرمتِ ظاہرِ محمدؐ اور ظہرِ محمدؐ

وِظِلِّ مُحَمَّدٍ وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ وَظَفْرِ

اور ظلِّ محمدؐ اور ظہورِ محمدؐ اور ظفرِ محمدؐ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحَرَمَةِ عَشِقِ مُحَمَّدٍ وَ

یا اہی بحرمتِ عشقِ محمدؐ اور

عَرَافَاتِ مُحَمَّدٍ وَعِلْمِ مُحَمَّدٍ وَ

عرفاتِ محمدؐ اور علمِ محمدؐ اور

عِلْمِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

علوِ محمدؐ اور علیمِ محمدؐ صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحَرَمَةِ

اللہ علیہ وسلم یا اہی بحرمتِ

عَرَبَتِ مُحَمَّدٍ وَغَارِ مُحَمَّدٍ وَعَرَّةِ

عربتِ محمدؐ اور غارِ محمدؐ اور عرہ

مُحَمَّدٍ وَغَيْرَتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

محمد اور غیرت محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ قَلْبِ

علیہ وسلم یا اہلی بحرمتِ قلب

مُحَمَّدٍ وَقَدِيرِ مُحَمَّدٍ وَقَنَاعَةِ

محمد اور قدر محمد اور قناعت

مُحَمَّدٍ وَقُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

محمد اور قوت محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ فَخْرِ

علیہ وسلم یا اہلی بحرمتِ فخر

مُحَمَّدٍ وَفَقْرِ مُحَمَّدٍ وَفِرَاقِ مُحَمَّدٍ

محمد اور فقر محمد اور فراق محمد

وَفَضْلِ مُحَمَّدٍ وَفَضِيلَةِ مُحَمَّدٍ

اور فضل محمد اور فضیلت محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا اہلی بحرمت

کلام محمد و کشف محمد و کوشش

کلام محمد اور کشف محمد اور کوشش

محمد و کتابہ محمد و کینہ محمد

محمد اور کتابت محمد اور کینت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی بحرمہ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت

لیل محمد و لقاء محمد و لیاقت

لیل محمد اور لقاء محمد اور لیاقت

محمد و مجاہدۃ محمد و مشاہدۃ

محمد اور مجاہدات محمد اور مشاہدات

محمد و ملاحظہ محمد و مساحت

محمد اور ملاحظہ محمد اور مساحت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی!

بحرمۃ نماز محمد و نماز محمد و

بحرمیت نماز محمد اور نماز محمد اور

نَصِيرٍ مُحَمَّدٍ وَنَقِيرٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى

نصیر محمد اور نقیر محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ وَرُودِ

اللہ علیہ وسلم یا الہی! حرمت و رُودِ

مُحَمَّدٍ وَوَقَاءِ مُحَمَّدٍ وَوَجُودِ مُحَمَّدٍ

محمد اور وقاء محمد اور وجود محمد

وَوَدِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ودیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ هِمَّةِ مُحَمَّدٍ وَهَدَايَةِ

یا الہی! حرمت ہمت محمد اور ہدایت

مُحَمَّدٍ وَهَدِيَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد اور ہدیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ يَارِي مُحَمَّدٍ وَيَكَانِي

یا الہی! حرمت یاری محمد اور یگانگی

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَهَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کوئی

إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عبادت کے لائق اللہ کے سوا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

علیہ و علی آلہ و اصحابہ وسلم

بَعْدَ مَا هُوَ الْمَكْتُوبُ فِي لَوْحٍ وَالْقَلَمِ

بعد اس تعداد کے مطابق جو لوح و قلم میں

فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ وَنَفْسٍ

لکھی ہوئی ہے ہر دن اور رات میں ہر ساعت میں اور سانس میں

وَالْمُحَيَّةِ أَلْفِ مِائَةِ أَلْفِ مَرَّةٍ إِلَىٰ

اور جان میں دس کروڑ مرتبہ یوم علم یعنی

يَوْمِ الْعِلْمِ إِلَّا إِنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا

قیامت تک آگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ تو

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بِرَحْمَتِكَ

خوف طاری ہو گا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے تیری رحمت کے ساتھ

يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ ۝

اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

درود تنجینا

درود تنجینا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور

عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَنْجِیْنَا

ان کی آل پر ایسی رحمت و برکت نازل فرما

بِهَا مِنْ جَمِیْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِ

جس سے ہمیں تمام ڈر خوف اور آفات سے نجات ہو جائے

لَنَا بِهَا جَمِیْعِ الْحَاجَاتِ وَتَطَهِّرْنَا بِهَا

اور جس کی برکت سے ہماری تمام حاجتیں روا ہو جائیں

مِنْ جَمِیْعِ السَّیِّئَاتِ وَتَرْفَعْنَا بِهَا

اور جس کی بدولت ہم تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں

عِنْدَكَ اَعْلٰی الدَّرَجَاتِ وَتَبَلِّغْنَا بِهَا

اور جس کے وسیلہ سے ہم تیری بارگاہ میں اعلیٰ درجوں پر متمکن ہوں

أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي

اور جس کے ذریعے ہم زندگانی کی تمام نیکیوں اور مرنے کے بعد کی تمام

الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ

اچھائیوں سے بدرجہ غایت فائدہ حاصل کریں خدائے پاک تحقیق

الدَّعَوَاتِ وَرَافِعُ الدَّرَجَاتِ وَيَا قَاضِيَ

آپ ہماری دعاؤں کے قبول فرمانے والے ہیں اور ہمارے

الْحَاجَاتِ وَيَا كَافِيَ الْمُهْمَاتِ وَيَا دَافِعَ

درجات کو بلند کرنے والے اور ہماری حاجتوں کو بر لائے والے اور ہماری

الْبَلِيَّاتِ وَيَا حَلَّ الْمَشْكَالَاتِ اغْنِنِي

بلاؤں کو رفع کرنے والے اور ہماری سخت مشکلات کے حل کرنے والے میری فریاد کو پہنچیں اور

اغْنِنِي يَا إِلَهِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اے اپنے حضور تک سائی دین میری عرض قبول فرمائیں الہی! تحقیق تو ہی ہر چیز پر قادر ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

اے اللہ! درود بھیج اوپر سردار ہمارے محمد جو نبی

الْأُمِّيِّ وَاللَّهُمَّ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

بن پر ہے اور آپ کی آل پر برکت اور سلامتی

ہفت ہیکل

سات ہیکل

ہَيْكَلِ اَوَّلُ

پہلا ہیکل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اُعِیْذُ نَفْسِیْ بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ۝

میں اپنی جان کو خدا سے بزرگ و بلند کی پناہ میں دیتا ہوں

اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۝

اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ زندہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا

لَا یَاخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ لَّہٗ مَا

نہیں پکڑتی اس کو اونگھ اور نہ نیند واسطے اس کے ہے

فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ

جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور جو کچھ بیچ زمین کے ہے کون ہے وہ جو سفارش

یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ

کرسے نزدیک اس کے مگر ساتھ حکم اس کے کے جانتا ہے جو کچھ آگے ان کے ہے

ہیکل ۳۲۵ دوم
اَيْدِيَهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

اور جو کچھ پیچھے ان کے ہے اور نہیں گھبرتے ساتھ

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ

کسی چیز کے علم اس کے سے کہ چاہے سما لیا ہے

كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ

کرسی اس کی نے آسمانوں کو اور زمین کو اور نہیں ٹھکاتی اسکو

حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

نگہبانی ان دونوں کی اور وہ ہے بلند مرتبہ بڑا

ہیکل دوم

ہیکل دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

عِذٌ لِّنَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

پناہ میں دیتا ہوں میں اپنی جان کو خدائے بزرگ و بلند کے ساتھ

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي

جب کہا عمران کی عورت نے اے میرے پروردگار

نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ

تحقیق میں نے نذر کیا ہے واسطے تیرے جو کچھ کہ میں پیٹ میرے سے آزاد کر کے قبول کر

مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ سَنَّهُ

مجھ سے یقیناً تو ہی سُننے والا جاننے والا عادت

مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا

اس کی کہ تحقیق بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے پیغمبروں اپنے سے

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝ أَقِمِ الصَّلَاةَ

اور نہ پاوے گا تو واسطے عادت ہماری کے تغیر قائم کر نماز کو وقت

لِدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ

ڈھلنے سورج کے اندھیرے رات کے ملک اور

قُرْآنَ الْفَجْرِ ۝ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ

قرآن پڑھ فجر کو تحقیق قرآن پڑھنا فجر کا ہے

مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

حاضر کیا گیا اور غنوی سی رات کو پس تہجد پڑھ ساتھ

نَافِلَةً لَّكَ عَلَىٰ أَنْ يُبْعَثَ رَسُوكَ

قرآن کے زیادتی ہے واسطے تیرے کتاب ہے یہ کہ بھیجے تجھ کو پروردگار

مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي

ترا مقام محمود میں اور کہہ لے میرے رب داخل کر مجھ کو

مُدْخِلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ ۝

داخل کرنا سچا اور نکال مجھ کو نکالنا سچا اور

جُعِلَ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ۝

کر واسطے میرے نزدیک اپنے سے غلبہ مند دینے والا

ہیکل سوم

ہیکل سوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

عِندَ نَفْسِي بِأَنَّ اللَّهَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝

میں وہاں دیتا ہوں اپنی جان کو خدائے بلند و بزرگ کی

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِنَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنَ

ایمان لایا بغیر ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی ہے طرف اس کے

رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ

اس کے سے اور مسلمان ہر ایک ایمان لایا ساتھ اللہ کے

وَمَلِكَيْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ

اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کے نہیں جدا کرتے

بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا

ہم درمیان کسی کے رسولوں اس کے سے اور کہا انہوں نے سنا ہم نے

وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ

اور مانا ہم نے بخشش مانگتے ہیں تیری اے رب ہمارے اور طرف تیرے

الْمَصِيرُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

سے پھر آنا نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جی کو مگر

وَسُعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

طاقت اس کی پر واسطے اس کے ہے جو کچھ کمایا اس نے

مَا أَكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ

اوپر اس کے ہے جو کچھ کمایا اس نے اے رب ہمارے مت پکڑ ہم کو

تَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ

اگر بھول گئے ہم یا خطا کی ہم نے اے رب ہمارے اور مت رکھ

عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ

اوپر ہمارے بوجھ جیسا رکھا تو نے اس کو اوپر ان لوگوں کے کہ

مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا

پہلے ہم سے تھے اے رب ہمارے اور مت اٹھوا ہم سے وہ چیز کہ نہیں

طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَتَقِ

طاقت واسطے ہمارے ساتھ اسکے اور معاف کر ہم کو اور بخش ہم کو

وَأَسْرَحْنَا وَتَقِ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا

اور - رحم کر ہم پر تو ہے دوستدار ہمارا پس مدد دے

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

ہم کو قوم کافروں کی پر

ہیکل چہارم

ہیکل چہارم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

أَعِذُ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○

پناہ میں دیتا ہوں اپنی جان کو خدائے بلند و بزرگ کی

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ

اور کہہ آیا حق اور گم ہوا باطل تحقیق

الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝ وَنُزِّلُ مِنَ

باطل تھا مگر ہو جانے والا اور اتارتے ہیں

الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

ہم قرآن سے وہ چیز کہ وہ شفا ہے اور رحمت واسطے ایمان والوں کے

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر ٹوٹا

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ

اور جب نعمت بھیجتے ہیں ہم اوپر انسان کے منہ پھیر لیتا ہے

وَنَا بَجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ

اور دور کر لیتا ہے کوٹ اپنی اور جب لگتی ہے اس کو بُرائی ہوتا ہے

يُوسًا ۝ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ

نا امید کہہ ہر ایک عمل کرتا ہے اوپر طریق اپنے کے

فَرِيكُمُ اعْلَمُ بَيْنَهُمْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝

بس پروردگار تمہارا خوب جانتا ہے اس شخص کو کہ وہ بہت راہ بانہو الہی راہ کو

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ

اور سوال کرتے ہیں تجھ کو رُوح سے کہہ رُوح علم

مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ

میرے پروردگار کے سے اور نہیں دیئے گئے ہوں

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

علم سے مگر محض کچھ

ہیکل پنجم

ہیکل پنجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

أَعِذُ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

یساہ میں دیتا ہوں اپنی جان کو خدائے بلند بزرگ کی

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي

کہا اے رب میرے تحقیق سست ہو گئی ہیں ہڈیاں میری

وَأَشْتَعَلُ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ

اور شعلہ مارا سر نے بڑھاپے کا اور نہ تھا بیچ بیکار نے تیرے کے

رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ

اے رب میرے لیے نصیب اور تحقیق میں ڈرتا ہوں وارثوں اپنے

مِنْ وَرَاءِ آيِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا

سے پیچھے میرے اور ہے عورت میری بانجھ

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي

پس بخش واسطے میرے اپنے پاس سے ولی کہ وارث ہو میرا

وَيَرِثُ مِنْ اِلٰی يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ

اور وارث ہو اولاد یعقوب کا اور کر دے اس کو

رَبِّ رَاضِيًا ۚ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ

اے رب میرے پسندیدہ البتہ تحقیق سچ دکھلایا اللہ نے رسول اپنے

الرُّءُيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ

کو خواب ساتھ حق کے البتہ ضرور داخل ہو گے تم مسجد

الْحَرَامِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِيْنٌ مَّحَلِّقِيْنَ

حرام میں اگر چاہا اللہ نے امن سے منڈواتے ہوئے سروں

رُءُيَاكُمْ وَمَقْصِرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ

اپنوں کو اور کترواتے ہوئے نہ ڈرتے ہوں گے

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا ۗ فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ

پس جانا اللہ نے جو کچھ نہ جانا تم نے پس کی ورے اس کے

ذٰلِكَ فَتَحًا قَرِيْبًا ۝

فتح نزدیک

ہیکل ششم

ہیکل چھٹا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اُعِيْذُ نَفْسِيْ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝

پناہ میں دیتا ہوں میں اپنی جان کو خدائے بلند و بزرگ کی

قُلْ اَوْحِيَ اِلَيَّ اِنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرًا مِّنْ

تو کہہ وحی کیا گیا ہے طرف میرے تحقیق سنا ایک جماعت نے

الْجِيْنِ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝

جنوں میں سے پس کہا انھوں نے تحقیق سنا ہم نے قرآن عجیب

يَهْدِيْ اِلَى الْرُّشْدِ فَاْمَنَّا بِهِ وَلٰكِنْ

کہ راہ دکھلاتا ہے طرف اچھلائی کی پس ایمان لائے ہم اس پر اور ہرگز

نَشْرِكُ بِرَبِّنَا اَحَدًا ۝ وَاِنَّهٗ تَعَالٰی

نہ شریک لافیس گئے ہم ساتھ رب اپنے کے کسی کو اور یہ کہ بلند ہے

جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَ

عزت رب ہمارے کی نہیں پکڑی اس کے جوڑو اور

لَا وَلَدًا ۝ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا

نہ اولاد اور یہ کہ کہا کرتے تھے بیوقوف ہمارے

عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝

اوپر اللہ کے بڑھا کر

ہیکل ہفتہ

ہیکل ساتواں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

أَعِذُ نَفْسِي بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

پناہ میں دیتا ہوں میں اپنی جان کو خدائے بلند و بزرگ کی

وَإِن يُكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُنزِلُونَكَ

اور تحقیق نزدیک ہیں وہ لوگ کہ کافر ہوئے البتہ بچلا دس

بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

بجھ کو ساتھ نظروں اپنی کے جب سنتے ہیں ذکر

وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝ وَمَا هُوَ

اور کہتے ہیں تحقیق وہ البتہ دیوانہ ہے اور نہیں وہ

إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

مگر نصیحت واسطے جہانوں کے

سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ عَشْرَةَ آيَةً

سورہ طارق مکی ہے اور اس میں سترہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ

آسمان اور رات کے آنے والے کی قسم اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے

مَا الطَّارِقِ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝ إِنَّ

آنے والا کیا ہے وہ تارا ہے چمکنے والا کہ کوئی

كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فليُظِرِّ

متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں تو انسان کو دیکھنا

الْإِنْسَانَ مِمَّا خَلَقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ

جیسا بیجے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے وہ اُچھلتے ہوئے پانی سے

دَافِقٍ ۝ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ

پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے

وَالثَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

نکلتا ہے بیشک خدا اس کے اعادے (یعنی پھر پیدا کرنے) پر قادر ہے

يَوْمَ تَبْيَضُّ بُيُوتُنَا لَكُمُ الْبَيْتَاتُ ۝ فَمِنْ قُوَّةٍ

جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی

وَلَا نَاصِرٍ ۝ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝

اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا آسمان کی قسم جو مینہ برساتا ہے

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ

اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ کلام (حق کو باطل سے)

فَصَلِّ ۝ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝ إِنَّهُمْ

جدا کرنے والا ہے اور بے ہودہ بات نہیں یہ لوگ تو

يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَآكِيدُ كَيْدًا ۝ فَمَهْلِكِ

اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں تو تم

الْكَافِرِينَ أَمْهَلُمْرُودًا ۝

کافروں کو مہلت دو بس چند روز ہی مہلت دو

سُورَةُ الْاَلْهَبِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ اَيَاتٍ

سُورَةُ الْاَلْهَبِ مکی ہے اور اس میں پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا اَعْنٰی

ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو نہ تو اس کا مال ہی

عَنْهُ مَالُهُ وَاَسْبٰبٌ ۝ سَيَصْلٰی نَارًا

اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں

ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَاَمْرًا تَهْتَبُ ۝ حَمَالَةَ الْحَطَبِ ۝

داخل ہو گا اور اس کی جو رو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے

فِيْ جُبٍّ جَدِيْدٍ ۝ مَا جَبَلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

اُس کے گلے میں موجد کی رستی ہو گی

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعُ اَيَاتٍ

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مکی ہے اور اس میں چار آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

کہو کہ وہ (ذاتِ پاک جس کا نام) اللہ (ہے) ایک (وہ) معبود برحق ہے نیاز ہے

لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ

نر کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

ہمسہ نہیں

سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ

سورۃ فلق مکی ہے اور اس کی پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ

کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بُرائی سے

مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ

جو اُس نے پیدا کی اور شبِ تاریک کی بُرائی سے

إِذَا وَقَبَا ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ

جب اُس کا اندھیرا چھا جائے اور گندوں پر (پڑھ پڑھ کر) پھونکنے والیوں

فِي الْعُقَدِ ۝ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

کی بُرائی سے اور حُسد کرنے والے کی بُرائی سے جب

إِذَا حَسَدَ ۝

حُسد کرنے لگے

سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ وَ هِيَ سِتُّ آيَاتٍ

سُورَةُ النَّاسِ مکی ہے اور اس کی چھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی

اللّٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَاسِی ۝

لوگوں کے مجبور برحق کی (شیطان) وسوسہ انداز کی بُرائی سے جو

الْخَاسِی ۝ الَّذِیْ یُوسِسُ فِی

اَضْدَاکَانَام سن کر) نتیجے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے

صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے (خواہ وہ) جنات سے (ہو) یا انسانوں میں سے

تَشْتِ قُفْل

قفل

پہلا

قُفْلٌ أَوَّلٌ

قفل

پہلا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

بِسْمِ اللَّهِ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ الَّذِي

شروع ساتھ نام اللہ سننے والے دیکھنے والے کے وہ کہ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ بِكُلِّ

نہیں ہے مثل اس کے کوئی چیز اور وہ ہر شے

شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ

کا جاننے والا ہے ساتھ رحمت تیری کے لئے سب سے بڑھ کر

الرَّاحِمِينَ ۝ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

رحم کرنے والے اور درود اللہ کا اوپر محمد کے

وَاللّٰهُ اَجْمَعِيْنَ ۝

اور اس کی آل کے سب کے

قفل دوم

قفل دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الْخَالِقِ الْعَلِيْمِ ۝ الَّذِي

شروع ساتھ نام اللہ پیدا کرنے والے جاننے والے کے وہ ہے

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۝ وَهُوَ الْفَتّٰحُ الْعَلِيْمُ ۝

نہیں ہے مثل اس کے کوئی شے اور وہ کھولنے والا جاننے والا ہے

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

ساتھ تیری رحمت کے لیے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے

قفل سوم

قفل تیسرا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

بِسْمِ اللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ ۝ الَّذِي

شروع ساتھ نام اللہ سُننے والے جاننے والے کے وہ جو

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْقَدِيرُ ۝

نہیں ہے مثل اس کے کوئی چیز اور وہ بے پرواہ قدرت والا ہے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

ساتھ تیری رحمت کے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے

قفل چہارم

قفل چہارم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي لَيْسَ

شروع ساتھ نام اللہ غالب بخشنے والے کے وہ جو نہیں ہے

كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝

مثل اس کے کوئی شے اور وہ غالب بخشنے والا ہے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے

قفل پنجم

قفل پانچواں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ ۝

شروع ساتھ نام اللہ سننے والے جاننے والے کے

الَّذِیْ لَیْسَ كَمِثْلِهٖ شَیْءٌ وَهُوَ

وہ جو نہیں ہے مثل اس کے کوئی شے اور وہ

الْعَلِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝ بِرَحْمَتِكَ

جاننے والا خبردار ہے تیری رحمت کے ساتھ

یَا رَحْمٰنُ الرَّحِیْمِ ۝

اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے

قفل ششم

قفل چھٹا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

شروع ساتھ نام اللہ غالب بخشش والے کے

الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ

وہ جو نہیں ہے مثل اس کے کوئی شے اور وہ

الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۝

غالب بخشنے والا ہے پس اللہ ہے سب سے اچھا نگہبان

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے

دُعَائِي آمِن

دُعَائِي آمِن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ فَرِّجْنَا بِدُخُولِ الْقَبْرِ

اے اللہ! کشادگی کر ہم کو ساتھ داخل ہونے قبر کے

وَاخْتِمُ لَنَا بِالْخَيْرِ وَالْظَّفْرِ

اور خاتمہ کر ہمارا ساتھ بھلائی کے اور کامیابی کے

وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِنَا وَ لِجَمِيعِ

اور بخش دے ہم کو اور ہمارے والدین کو اور سب

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اور مسلمان مردوں

وَالْمُسْلِمَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ

اور مسلمان عورتوں کو اور نیکو کار مردوں اور نیکو کار عورتوں کو

بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ ۝ وَ

ساتھ رحمت اپنی کے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اور

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ

درود بھیجے اللہ تعالیٰ اُوپر محمد کے اور

عَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ ۝

آل اس کی کے سب کے

أَنْتَ وَوَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي

تو ہی میرا آخرت اور دنیا میں کارساز ہے مجھ کو اپنا

مُسْلِمًا وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ ۝

فرمانبردار بنا اور نیکو کاروں میں شامل فرما

دُعَائِ كِتَابِ الْعَرْشِ

دُعَائے گنج العرش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ذات ہے بادشاہ نہایت پاک

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غالب، بگاڑ کا اصلاح کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشنے والا نہایت مہربان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الْحَكِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشنے والا نہایت حکمت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْقَوِي

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زور آور وعدہ وفا کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بار یک ہیں خبر دار

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّامِدِ الْمَعْبُودِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے نیاز عبادت کے لائق

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَفُورِ الْوَدُودِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشنے والا بہت دوست رکھنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَكِيلِ الْكَفِيلِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے کارساز ذمہ دار کاموں کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّقِيبِ الْحَفِيفِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے نگہبان محافظ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الدَّائِمِ الْقَائِمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ہمیشہ رہنے والا قائم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُحْيِ الْمُمِيتِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زندہ کرنے والا مارنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَحْيِ الْقَيُّومِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زندہ اپنی ذات سے قائم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْبَارِي

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے پیدا کرنے والا درست کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عالیشان عظمت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ایک ذات و صفات میں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيَّبِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے امن دینے والا نگہبان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَسِيبِ الشَّهِيدِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے کافی اور حاضر ناظر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَلِيمِ الْكَرِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بردبار بخشنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْقَدِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سب سے اول اور قدیم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْآخِرِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ظاہر (قدرت والا) اور چھپا ہوا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا بلند

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَاضِي الْحَاجَاتِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے حاجتوں کا پورا کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشنے والا بڑا مہربان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑے عرش کا رب

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے میرا عالی رتیبہ والا پروردگار

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبُرْهَانَ السُّلْطَانِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ظاہر غلبہ والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّمِيعِ الْبَصِيرِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سُننے والا دیکھنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے اکیدا غالب

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے علم والا حکمت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّيِّئَاتِ الْغَفَّارِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے چھپا نیوالا (عیبوں کا) بخشنے والا (گناہوں کا)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ الدَّيَّانِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا مہربان بدلہ دینے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَبِيرِ الْأَكْبَرِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا سب سے بزرگ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيمِ الْعَلَّامِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے خبردار وسیع علم والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الشَّافِي الْكَافِي

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے شفا دینے والا کفایت کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْبَاقِي

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عظمت والا سدا رہنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْأَحَدِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے نیاز اکیلا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زمین اور آسمان کا پروردگار

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ خَالِقِ الْمَخْلُوقَاتِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے مخلوق کا پیدا کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے جس نے دن اور رات کو پیدا کیا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الرَّزَاقِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا کھولنے والا (کاموں کا) علم والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْغَنِيِّ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غالب بے پروا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَفُورِ الشَّكُورِ

ہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشنے والا شکر دان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْعَلِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عظمت والا علم والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے روحانی اور روحانی بادشاہت کا مالک

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعُظْمَةِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عزت والا اور عظمت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْهِبَةِ وَالْقُدْرَةِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے دیدہ اور قدرت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بزرگی اور بڑائی والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْعَظِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے چھپانے والا عیبوں کا عظمت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَالِمِ الْغَيْبِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے جاننے والا غیب کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے خوبوں والا بزرگی والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَكِيمِ الْقَدِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے حکمت والا قدیم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ السَّارِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے قدرت والا پردہ پوش

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سُننے والا جاننے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْعَظِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے پرواہ عظمت والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلَّامِ السَّلَامِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا دانا سلامتی دینے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ النَّصِيرِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بادشاہ مدد دینے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الرَّحْمَنِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے پرواہ بڑا مہربان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَرِيبِ الْحَسَنِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عزیزوں کے نزدیک

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الْوَرِيِّ الْحَسَنِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غویوں کا دوست

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الصَّبُورِ السَّاتِرِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بردبار عیب پوش

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الْخَالِقِ النُّورِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے اجلے کا پیدا کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْمُعْجِزِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے پرواہ عاجز کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الْفَاضِلِ الشَّكُورِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے کمالات والا قدردان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْقَدِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے پرواہ قدیم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ الْمُبِينِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ظاہر بزرگی والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ سُبْحَانَ الْغَالِصِ الْمُخْلِصِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بالکل بے عیب

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّادِقِ الْوَعْدِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سچے وعدے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ الْمُبِينِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے سچا ظاہر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْقُوَّةِ الْمَتِينِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زور آور مضبوط

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْعَزِيزِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے قدرت والا غالب

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلَّامِ الْغُيُوبِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے چھپی باتوں کا جاننے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے وہ زندہ جو نہیں مرتا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّاتِرِ الْعُيُوبِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے عیبوں کا چھپانے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُسْتَعَانَ الْغَفُورِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے جس نے بخشش و مدد طلب کی جاسکتی ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام جہانوں کا پروردگار

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ السَّمِيعِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا مہربان پروردگار

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحِيمِ الْغَفَّارِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے رحم والا بخشنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غالب بہت عطا کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے قدرت والا قدرت ظاہر کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْغُفْرَانِ الْحَلِيمِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشنے والا بڑا بخشنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَالِكِ الْمَلِكِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بادشاہی کا مالک

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبَارِي الْمُصَوِّرِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے پیدا کرنے والا صورت بنانے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غالب زبردست

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زبردست بڑائی کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے اللہ اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ السُّبُّوحِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے نہایت پاک بڑی پاکی والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے فرشتوں اور رُوح کا رب

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْأَلْءِ وَالنَّعْمَاءِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بخشش اور نعمتوں والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمُقْصُودِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بادشاہ دنیا کا مقصد

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَنَّانِ الْمَنَّانِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے رحمت کرنے والا احسان کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَدَمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے آدم اللہ کا صفی (برگزیدہ) ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نُوحٌ نَبِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے نوح اللہ کا نبی (ہمراز) ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ابراہیم اللہ کا خلیل (دوست) ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِسْمَاعِيلُ ذَبِيحُ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اسمعیل اللہ کا ذبیح (اس کی راہ میں) ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُوسَى كَلِيمُ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے موسیٰ اللہ کا کلیم (مکلام) ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَاوُدُ خَلِيفَةُ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے داؤد اللہ کا خلیفہ ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِيسَى رُوحُ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے عیسیٰ اللہ کی روح ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ تعالیٰ کا رسول ہے

وَصَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ

اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق پر

وَنُورِ عَرْشِهِ وَزِينَةِ فَرْشِهِ

اور اس کے عرش کا نور اور اس کے فرش کی زینت

أَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

اور تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہیں

سَيِّدِنَا وَسَدَنَانَا وَشَفِيعِنَا

جو ہمارے سردار اور ہمارے سہارے اور ہمارے شفیع

وَجَيْبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور ہمارے جیب اور ہمارے آقا محمد ہیں اور آپ کی تمام

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ

آل اور تمام اصحاب پر بھی اور آپ کے گھر والوں پر

وَأَنْزِلِ وَأَجِبْ وَذُرِّيَّتِهِ أَجْمَعِينَ

اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر تمام پر رحمت ہو

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ①

اے رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے یعنی رحمت کے ہماری دعا قبول فرما

دُعَاؤُ جَمِيلَةٌ

دُعَاؤُ جَمِيلَةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا جَمِيْلُ يَا اللّٰهُ يَا قَرِیْبُ يَا اللّٰهُ

اے غریب والے اے اللہ اے نزدیک اے اللہ

يَا عَجِيْبُ يَا اللّٰهُ يَا مُجِیْبُ

اے عجیب اے اللہ اے قبول کرنے والے

يَا اللّٰهُ يَا رَءُوْفُ يَا اللّٰهُ يَا مَعْرُوْفُ

اے اللہ اے مہربانی کرنے والے اے اللہ اے نیکوکار

يَا اللّٰهُ يَا مَنَّانُ يَا اللّٰهُ يَا دِيَّانُ

اے اللہ اے احسان والے اے اللہ اے دیان

يَا اللّٰهُ يَا بَرَهَانَ يَا اللّٰهُ يَا سُلْطَانَ

اے اللہ اے قوی دلیل اے اللہ اے غالب

يَا اللَّهُ يَا مُسْتَعَانُ يَا اللَّهُ يَا مُحْسِنُ

اے اللہ اے مدد چاہے گئے اے اللہ اے احسان کرنے والے

يَا اللَّهُ يَا مُتَعَالِي يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ

اے اللہ اے سب سے برتر اے اللہ اے مہربان

يَا اللَّهُ يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ يَا حَلِيمُ

اے اللہ اے نہایت رحم والے اے اللہ اے علم والے

يَا اللَّهُ يَا عَلِيمُ يَا اللَّهُ يَا كَرِيمُ

اے اللہ اے خبردار اے اللہ اے نہایت کرم کرنے والے

يَا اللَّهُ يَا جَلِيلُ يَا اللَّهُ يَا مَجِيدُ

اے اللہ اے بزرگ اے اللہ اے صاحب بزرگی کے

يَا اللَّهُ يَا حَكِيمُ يَا اللَّهُ يَا مُقْتَدِرُ

اے اللہ اے حکمت والے اے اللہ اے ظاہر قدرت والے

يَا اللَّهُ يَا غَفُورٌ يَا اللَّهُ يَا غَفَّارُ

اے اللہ اے بخشنے والے اے اللہ اے گناہ بخشنے والے

يَا اللَّهُ يَا مُبْدِي يَا اللَّهُ يَا رَافِعُ

اے اللہ اے پیدا کرنے والے اے اللہ اے بلند کرنے والے

يَا اللَّهُ يَا شَكُورُ يَا اللَّهُ يَا خَيْرُ

اے اللہ اے قدردان شکر کرنے والوں کے اے اللہ اے خبردار

يَا اللَّهُ يَا بَصِيرُ يَا اللَّهُ يَا سَمِيعُ

اے اللہ اے دیکھنے والے اے اللہ اے سُننے والے

يَا اللَّهُ يَا أَوَّلُ يَا اللَّهُ يَا آخِرُ

اے اللہ اے اول اے اللہ اے آخر

يَا اللَّهُ يَا ظَاهِرُ يَا اللَّهُ يَا بَاطِنُ

اے اللہ اے ظاہر اے اللہ اے باطن

يَا اللَّهُ يَا قُدُّوسُ يَا اللَّهُ يَا سَلَامُ

اے اللہ اے پاکیزہ بڑے صفوں کے اے اللہ اے سلامتی والے

يَا اللَّهُ يَا مُهَيِّبُ يَا اللَّهُ يَا عَزِيزُ

اے اللہ اے نگہبان اے اللہ اے زبردست

يَا اللَّهُ يَا مُكَبِّرُ يَا اللَّهُ يَا خَالِقُ

اے اللہ اے عظمت والے اے اللہ اے پیدا کنندہ

يَا اللَّهُ يَا وَدِي يَا اللَّهُ يَا مُصَوِّرُ

اے اللہ اے پیدا کنندہ خلق کے اے اللہ اے صورت بنانے والے

يَا اللَّهُ يَا جَبَّارُ يَا اللَّهُ يَا حَمِيُّ يَا

اے اللہ اے زبردست اے اللہ اے ہمیشہ جینے والے اے

اللَّهُ يَا قِيُومُ يَا اللَّهُ يَا قَابِضُ

اللہ اے ہمیشہ قائم رہنے والے اے اللہ اے تنگ کنندہ

يَا اللَّهُ يَا بَاسِطُ يَا اللَّهُ يَا مُدِّدُ

اے اللہ اے فراخ کنندہ روزی کے اے اللہ اے زلت دینے والے

يَا اللَّهُ يَا قَوِيُّ يَا اللَّهُ يَا شَهِيدُ

اے اللہ اے قوت دینے والے اے اللہ اے حاضر

يَا اللَّهُ يَا مُعْطِيُّ يَا اللَّهُ يَا مَانِعُ

اے اللہ اے عطا کرنے والے اے اللہ اے ہٹانے والے

يَا اللَّهُ يَا خَافِضُ يَا اللَّهُ يَا رَافِعُ

اے اللہ اے پست کرنے والے اے اللہ اے بلند کرنے والے

يَا اللَّهُ يَا وَكِيْلُ يَا اللَّهُ يَا كَفِيْلُ

اے اللہ اے کارساز اے اللہ اے کفایت کرنے والے

يَا اللَّهُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اے اللہ اے صاحب بزرگی اور بخشش کے

يَا اللَّهُ يَا رَاشِدُ يَا اللَّهُ يَا صَبُورُ

اے اللہ اے راہنما اے اللہ اے بردبار

يَا اللَّهُ يَا فَتَّاحُ يَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اے اللہ اے کھولنے والے اے اللہ نہیں کوئی معبود مگر

أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

تو پاکی ہے تجھ کو تحقیق تھا میں

الظَّالِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

ظالموں میں سے اور رحمت اللہ تعالیٰ کی ہو

عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ

اوپر بہترین خلق کے جو نام ان کا محمد ہے اور ان کی آل پر

وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَعَلَىٰ

اور اصحاب پر اور بی بیوں پر اور اولاد پر اور

عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ

اللہ کے نیکو کار بندوں پر سب پر تیری رحمت سے

يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ ۝

اے سب زیادہ رحم کرے والے !

دُعَايُ عَكَاشَةَ

دُعَايَ عَكَاشَةَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ يَا كَثِيْرَ التَّوَالِيْ وَ يَا دَائِمَ

اے اللہ اے بہت بخشش والے اور اے ہمیشہ

الْوَصَالِ وَ يَا اَحْسَنَ الْفِعَالِ ۙ اللّٰهُمَّ

ملنے اور بہت اچھے کام کرنے والے اے اللہ

اِنْ دَخَلَ الشَّكُّ فِيْ اِيْمَانِيْ بِكَ

اگر تیری نسبت میرے ایمان میں کوئی شک واقع ہو

وَلَمْ اَعْلَمْ بِهٖ ثُبُتٌ عِنْدَهُ وَاَقُوْلُ

اور اُس کو میں نہیں جانتا میں اس سے تو یہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں

اللّٰهُمَّ اِنْ دَخَلَ الْكُفْرُ فِيْ اِسْلَامِيْ

اے اللہ اگر تیری نسبت میرے اسلام میں کفر واقع

بِكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ ثُبْتُ عَنْهُ وَ

ہو اور میں اس کو نہیں جانتا میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور

أَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

کہتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول

اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنْ دَخَلَ الشُّكُّ فِي

میں اے اللہ اگر تیری توحید میں مجھ کو شک

تَوْحِيدِي إِيَّاكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ

ہو اور میں اس کو نہیں جانتا اس سے

ثُبْتُ عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنْ

محمد اللہ کے رسول ہیں اے اللہ اگر تیری

دَخَلَ الْعُجْبُ وَالْكِبْرُ وَالرِّيَاءُ

عبادت میں تکبر اور غرور اور ریاکاری میرے

وَالسُّعَّةُ فِي عَمَلِي بِكَ وَلَمْ أَعْلَمْ

کسی عمل میں واقع ہوئی ہو اور میں اس کو نہیں جانتا

بِهِ تَبِتُ عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا

اس سے توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے

اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي

اللہ کے محمد کے رسول ہیں اے اللہ اگر

دَخَلَ الْكُذْبُ وَجَرَى الْغَيْبَةُ عَلَيَّ

میری زبان پر جھوٹ اور غیبت آئی ہو اور

لِسَانِي وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبِتُ عَنْهُ وَ

میں اس کو نہیں جانتا اس سے توبہ کرتا ہوں اور

أَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ

کہتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد رسول

اللَّهُمَّ إِنِّي دَخَلَ الْخَطَرَاتِ

میں اے اللہ اگر خطرات اور وسوسے میرے

وَالْوَسْوَسَةِ فِي صَدْرِي وَإِيَّاكَ وَلَمْ

دل میں آئے ہوں تیری نسبت اور میں اے

أَعْلَمْ بِهِ تَبِتُ عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ

نہیں جانتا اس سے توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ

سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں اے اللہ

إِنْ دَخَلَ التَّشْبِيهِ فِي مَعْرِفَتِي بِكَ

اگر میرے دل میں تیری معرفت میں کسی سے مشابہت واقع ہو

وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبِتْ عَنْهُ وَأَقُولُ

اور میں اس سے بے خبر ہوں اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں

اللَّهُمَّ مَا قَدَّرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرٍ

اے اللہ جو میرے کام میں تو نے مقدر کیا اور میں

فَلَمْ أَرْضَهُ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبِتْ

اس سے راضی نہیں ہوا اور مجھے اس کی خبر نہیں توبہ کرتا ہوں

عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

اس سے اور کہتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد

رَّسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ مَا أَنْعَمْتَ

اللہ کے رسول ہیں اے اللہ جو کچھ تو نے مجھ پر مہربانی کی

عَلَىٰ فَعَصَيْتُ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ

اور میں نے نافرمانی کی اور میں اس کو نہیں جانتا اس سے

ثُبْتُ عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

محمدؐ اللہ کے رسول ہیں اے اللہ جو کچھ

أَتَيْتَنِي مِنْ نِعْمَاتِكَ فَغَفَلْتُ عَنْ

تو نے مجھے عنایت کیا اپنی نعمتوں سے اور میں تیرے شکر سے

شُكْرِكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ ثُبْتُ عَنْهُ

غافل ہوا اور میں اس سے بے خبر ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں

وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

اور کہتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمدؐ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

اللہ کے رسول ہیں اے اللہ جو کچھ تو نے اپنی نعمتوں سے

الَّذِي كَفَرْتُ بِهِ وَأَعْتَدْتُ لَهُ عَذَابًا

جس کا میں نے کفر کیا اور اس کا عذاب تیار کیا اور میں اس سے

بِه تَبَّتْ عَنْهُ وَاقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا

بے خبر ہوں اس سے توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں کوئی معبود

اللَّهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں اے اللہ جو کچھ

مَنْتُ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الْحُسْنَى فَلَمْ

نیکیوں سے تو نے مجھ پر احسان کیا اور میں تیری

أَحْمَدُكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبَّتْ عَنْهُ

تعریف نہیں کر سکا اور میں اس کو جانتا بھی نہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں

وَاقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

اور کہتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَيَّعْتُ

اللہ کے رسول ہیں اے اللہ جو کچھ میں ضائع کر چکا

مِنْ عُمْرِي بِمَا لَمْ تَرْضَ بِهِ وَلَمْ

ہوں اپنی عمر سے اس چیز سے کہ تو اس سے راضی نہیں اور میں

أَعْلَمْ بِهِ تَبَّتْ عَنْهُ وَاقُولُ لَا

اس سے بے خبر ہوں اس سے توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں

اللَّهُمَّ مَا أَوْجِبْتَ عَلَيَّ مِنَ النَّظَرِ

اے اللہ جو کچھ واجب کر دیا تو نے مجھ پر تیری ذات میں سوچنے

فِيكَ فَغَضُّتُ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ

کی نوبت میں نے چشم بند کی اور میں اس کو نہیں جانتا

ثَبَّتْ عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ مَا

محمد اللہ کے رسول ہیں اے اللہ جو کچھ

قَصَّرْتُ أَمَلِي فِي رَجَائِكَ مِنْكَ

میں نے اپنی ہمت تیری امید دلانے پر کوتاہ کی ہے اور میں

وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ ثَبَّتْ عَنْهُ وَأَقُولُ

اس کو نہیں جانتا میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں ا

اللَّهُمَّ مَا أَعْهَدْتُ عَلَى سِوَاكَ

اے اللہ جس کو میں نے تیرے سوا مصیبتوں میں کام

فِي الشَّدَائِدِ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبِتُّ

آنے والا سمجھا ہو اور میں اس بات کو نہیں جانتا اس سے توبہ

عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

کرتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد

رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِ اسْتَعَنْتُ

اللہ کے رسول میں اے اللہ اگر میرے سوا میں نے

مِنْ غَيْرِكَ فِي النَّوَائِبِ وَلَمْ

کسی سے مصیبتوں میں مدد چاہی ہو اور میں

أَعْلَمْ بِهِ تَبِتُّ عَنْهُ وَأَقُولُ لَا

اس کو نہیں جانتا اب اس سے توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول میں

اللَّهُمَّ إِنِ نَزَلَتْ قَدَمِي فِي صِرَاطِ

اے اللہ اگر میرا قدم پھسل کر میرے سوا کسی اور

مِنْ غَيْرِكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبْتُ

جانب گیا ہو اور میں اس کو نہیں جانتا اس سے توبہ

عَنْهُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

کرتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد

رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ مَا صَلَّحْتَ

اللہ کے رسول ہیں اے اللہ جو کچھ اپنے فضل سے تو نے

سَيِّئَاتِي بِفَضْلِكَ فَرَأَيْتُهُ مِنْ غَيْرِكَ

میری برائیوں کو درست کیا ہو اور میں اس کو تیرے سوا سمجھتا ہوں

وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ تَبْتُ عَنْهُ وَأَقُولُ

اور نہیں جانتا اب اس سے توبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول ہیں

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے والے نہیں کوئی معبود سوائے تیرے

وَسَبِّحْكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

پاکی ہے تجھ کو تحقیق تھا میں ظالموں میں سے

فَاَسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ

پس ہم نے اپنے بندے کی دعا قبول کی اور ہم نے اسے غم سے نجات دی

وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا

اور ایسی ہی نجات دیتے ہیں ہم ایمان والوں کو اور جب پکارا زکریا

إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي

نے اپنے رب کو اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ

فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝

اور تو بہترین وارثوں کا ہے

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولٍ خَيْرٍ

اور درود اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے بہتر

خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

مخلوق میں اہم مبارک محمدؐ ہے اور ان کی آل پر اور یاروں پر

وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ

اور ان کی بیبیوں پر اور ان کی اولاد سب پر تیری مہربانی سے

يَا رَحِمًا رَّاحِمِينَ ۝

اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

عہد نامہ

عہد نامہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ

اے میرے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے غائب اور

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

حاضر کے جاننے والے تو نہایت مہربان بخشش والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ

الہی میں اس دنیاوی زندگی میں تیرے ساتھ عہد و اقرار کرتا ہوں

الدُّنْيَا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ

اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا قابل پرستش کوئی نہیں تو یکتا ہے

لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ

تیرا کوئی شریک اور ساتھی نہیں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم

وَرَسُولُكَ فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فَإِنَّكَ إِنْ

تیرے بندے اور رسول ہیں پس تو مجھے میرے نفس پر نہ چھوڑ کیونکہ اگر تو

تَكَلِّبْنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّبْنِي إِلَى الشَّرِّ

مجھے میرے نفس کے حوالے کر دے گا تو مجھے شر کے

وَتُبَاعِدُنِي مِنَ الْخَيْرِ وَإِنِّي لَأَكْرَهُ

قریب اور نیکی سے دور کر دے گا اور مجھے تو

أَكْرَهُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَأَجْعَلْ لِي عِنْدَكَ

صرف تیری رحمت کا آسرا ہے پس اپنے ہاں بھی میرا

عَهْدًا تُوَفِّيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ

عہد کر دے جسے روز قیامت تک پورا کرے تو ہرگز

لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَصَلَّى اللَّهُ

عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور خیر الخلق محمد

تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ

وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝ بِرَحْمَتِكَ

کی رحمت نازل ہو اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

رحم کرنے والے اپنی رحمت سے (میری التجا قبول فرما)

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ

اے اللہ تو میرا رب ہے نہیں کوئی معبود مگر تو نے مجھے پیدا کیا

وَ اَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَاَوْعَدِكَ

اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں

مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا

اپنی طاقت کے موافق میں بیسناہ مانگتا ہوں تیری اپنی بدکاریوں

صَنَعْتُ اَبُوْءُكَ بِنِعْمَتِكَ عَلٰی وَاَبُوْءُ

سے اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار

بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ

کرتا ہوں تو مجھے میرے گناہ بخش دے پس تیرے سوا کوئی

الذُّنُوْبِ اِلَّا اَنْتَ ۝

گناہ نہیں بخشتا

دُعَاةُ سُنَّتِ عَصْرٍ

سنت عصر کی دُعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا دَاۤءِمَ الْفَضْلِ عَلَي الْبِرِّيَّةِ يَا

اے ہمیشہ فضل کرنے والے خلقت پر اے

بِاسِطِ الْيَدَيْنِ بِالْعَطِيَّةِ وَيَا صَاحِبَ

کھلے ہاتھوں والے ساتھ بخشش کے اور اے صاحب

الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ وَيَا دَافِعَ الْبَلَاءِ

بڑی بخششوں عام کے اور اے دور کرنے والے بلاؤں کے

وَالْبَلِيَّةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ

اور مصیبتوں کے رحمت بھیج محمد صاحب پر جو بہتر ہیں

الْوَرَى السَّجِيَّةِ وَعَلَىٰ إِلِهِ الْبِرَّةِ

برگزیدہ مخلوقات کے اور اویس آل اس کے پاک صاف

النَّقِيَّةِ وَاعْفِرْ لَنَا يَا ذَا الْهُدَى الْعُلَىٰ

کے اور بخش ہم کو اے صاحب ہدایت بلند کے

فِي هَذَا الْعَصْرِ وَالْعَشِيَّةِ رَبَّنَا

اس عصر میں اور عشاء میں اے رب ہمارے

تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحِقُّنَا بِالصَّالِحِينَ

موت دے ہم کو اسلام کی حالت میں اور ملا ہم کو نیکوں سے

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ

رحمت بھیج محمد صاحب پر اور ان کے آل اور

اصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ

اصحاب سب پر اپنی رحمت سے

يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ ○

اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے

دُعَاءُ شُكْرِ اللَّهِ

پہلی رکعت میں بعد الْحَمْدُ کے آیت الکرسی سے

خَلْدُونَ تک اور دوسری رکعت میں اَمَّنَ الرَّسُولُ

سے آخر سورت تک اور یہ آیت اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ نَارًا

عَلَيْهِمْ يُرِطُّ بِرِطِّهِ بِرِطِّهِ دُعَاءُ بِرِطِّهِ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ لَكَ لَا اَسْتَطِیْعُ

الہی تحقیق صبح کی میں نے واسطہ تیرے نہیں طاقت رکھتا ہوں اس چیز کے روکنے

دَفْعَ مَا اَكْرَهُ وَلَا اَمْلِكُ نَفْعَ مَا

کی جس کو بُرا جانوں اور نہیں قدرت رکھتا ہوں میں فائدہ لینے کی

اَرْجُوْا مِنْ رَّحْمَتِكَ اَصْبَحْتُ مِنْ هٰذَا

اس چیز سے جو امید رکھتا ہوں تیری رحمت سے صبح کی میں نے گروی پڑا ہوا ہے

بِعَمَلِیْ وَاَصْبَحَ اَمْرِیْ بِیَدِ غَیْرِیْ

اپنے عمل میں اور صبح کی میرے کام نے میرے غیر کے قبضہ میں

فَلَا فَقِیْرًا اَفْقَرُ مِنْیْ لَا تَشْمِتْ بِیْ

پس نہیں کوئی فقیر بہت محتاج میرے سے نہ خوش کر تو میرے دشمنوں

عَدُوِّیْ وَلَا تَسُوْ بِیْ صَدِیْقِیْ وَلَا

کو اور نہ تکلیف دے تو میرے دوست کو اور نہ

تَجْعَلْ مُصِیْبَتِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَدُنْیَایْ

کر مصیبت میرے دین میں اور میری دنیا میں

وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَلَا تَجْعَلِ

اور نہ آخرت میں اور نہ کر تو

الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي وَلَا مَبْدَغِ

دُنیا کو بڑا بھاری مقصود میرا اور نہ جگہ پہنچنے

عَلَيَّ وَلَا تَسْلُطْ عَلَيَّ مَنْ لَا

میرے علم کی اور نہ غالب کر مجھ پر اس شخص کو جو مجھ پر

يَرْحَمُنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ

رحم نہ کرے دُنیا اور آخرت میں اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي

تحقیق میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی گناہوں سے وہ گناہ کہ

تُزِيلُ بِهَا النِّعَمَ وَمِنَ الذُّنُوبِ

دور کرنے تو بسبب ان کے نعمتوں کو اور ایسے گناہوں سے جو

الَّتِي تُوْجِبُ بِهَا النِّقْمَ بِرَحْمَتِكَ

واجب کر دے تو بسبب ان کے عذاب کو اپنی رحمت سے

يَا كَرِيمَ الرَّاحِمِينَ هُ

اے سب پر رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے

دُعَا استعاذہ

پہلی رکعت میں سُورَةُ فَلَقِ اور دوسری رکعت میں سورَةُ
وَالتَّائِسِ ایک بار پڑھے اور بعد سلام یہ دُعَا پڑھے :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ بِاسْمِكَ

اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ساتھ نام تیرے

الْاَعْظَمِ بِكَلِمَاتِكَ السَّامَةِ مِنْ

بزرگی کے اور ساتھ کلموں تیرے کاملہ کے شرارت

شَرِّ السَّامَةِ وَالْهَامَةِ وَاَعُوْذُ بِكَ

زہریلے جانوروں سے اور گزندوں سے اور پناہ مانگتا ہوں میں

بِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَكَلِمَاتِكَ السَّامَةِ

ساتھ تیرے بزرگ نام بزرگ تیرے کے اور کلمات تیرے کاملہ کے شرارت

مِنْ شَرِّ عِبَادِكَ وَمِنْ شَرِّ عَذَابِكَ

تیرے بندوں سے اور تیرے عذاب کی برائی سے

وَاعُوذُ بِكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَكَلِمَتِكَ

اور پناہ مانگتا ہوں تیری بذریعہ اسم بزرگ تیرے کے اور کلمات کاملہ تیرے

الْكَامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ

کے شرارت ہر شیطان زاندہ سے اور شرارت

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَعُوذُ بِكَ

ہر سرکش دشمن سے اور پناہ مانگتا ہوں تیری

بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَكَلِمَتِكَ الْكَامَّةِ

بذریعہ نام بزرگ تیرے کے اور کلمات کاملہ تیرے کے

مِنْ شَرِّ كُلِّ مَا يَجْرِي بِهِ اللَّيْلُ

بڑائی سے ہر اس چیز کی جس کو جاری کرتے ہیں رات

وَالنَّهَارُ إِنَّ رَبِّي اللَّهُ الَّذِي لَا

اور دن بے شک میرا پروردگار اللہ ہے وہ اللہ کہ نہیں

إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

کوئی معبود سوا اُس کے اسی پر توکل کیا میں نے اور وہی ہے پروردگار

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِلَهِي أَنْتَ سَلَّطْتَ

عرش عظیم کا اے اللہ بیشک تو نے مسلط کیا ہم پر

عَلَيْنَا عَدُوًّا وَابْصِيرَ أَيْرُنَا بَعِيورِنَا

ایسا دشمن دیکھنے والے کو کہہ دیکھتا ہے ہمارے عیبوں کو

هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَاهُمُ اللَّهُمَّ

وہ اور اس کا قبیلہ اس طرح کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے اے اللہ

فَأَسْأَلُكَ مَنَّا كَمَا أَسْتَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ

پس نا امید کر دے تو اس کو ہم سے جیسا کہ نا امید کیا تو نے اس کو اپنی رحمت سے

وَقَطُّهُ مَنَّا كَمَا قَطُّتَهُ مِنْ

اور نا امید کر دے تو اس کو ہم سے جیسا کہ نا امید کیا تو نے اس کو

عَفْوِكَ وَأَبْعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا

اپنی بخشش سے اور دوری ڈال دے ہمارے اور اس کے درمیان جیسا کہ

أَبْعَدْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَنَّتِكَ إِنَّكَ

دوری ڈال دی تو نے درمیان اسکے اور درمیان جنت اپنی کے بے شک

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْجَابَةِ

تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور دعا قبول کرنے کے

جَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

لا لائق ہے اور نہیں پھرنا گناہوں اور نہ طاقت بندگی کی مگر ساتھ اللہ

الْعَبِيَّ الْعَظِيمِ ۝

بلند مرتبہ عظمت والے کے

دُعَاةُ اسْتِخَارَةِ

دعائے استخارہ

استخارہ کے لئے: دو رکعت نماز نفل پڑھے پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھے اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص ایک ایک مرتبہ پڑھے اس کے بعد درج ذیل دعا پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ

اے اللہ میں بھلائی مانگتا ہوں تجھ سے بذریعہ علم تیرے کے

وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْأَلُكَ

اور طاقت مانگتا ہوں تجھ سے ساتھ قدرت تیری کے اور مانگتا ہوں

مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَانِّیْ اَسْأَلُكَ تَقْدِیْرُ

تجھ سے تیرا فضل بزرگ کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے

وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ

اور میں نہیں قدرت رکھتا اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو

عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ

جاننے والا پوشیدہ باتوں کا اے اللہ میں نہیں قدرت رکھتا اپنے

لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا

نفس کے لیے نقصان اور نفع کی اور نہ موت اور

حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ

زندگی کی اور نہ پھر اٹھانے کی اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ

تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي

درحقیقت یہ کام اچھا ہے میرے دین میں اور میری

وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَأَقْدِرْهُ

زندگی میں اور میرے انجام کار میں پس مقدر کر تو

لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ

اسکو میرے لئے اور آسان کر اسکو میرے لئے پھر برکت دے اس میں میرے لئے اور

إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي

اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام برا ہے میرے

لئے، یہاں اپنے مطلب کا خیال رکھے۔

فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي

دین میں اور میری زندگی میں اور میرے انجام کار میں

فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي

پس پھیر دے تو اسکو مجھ سے اور پھیر دے مجھ کو اس سے اور مقدر کر دے

الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ بِرَحْمَتِكَ

میرے واسطے بھلائی جہاں ہو پھر راضی کر دے مجھ کو ساتھ اسکے اپنی رحمت سے

يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ ○

اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے

دُعَاءُ اسْتِحْبَابِ

دعائے استحباب

دُعَاءُ اسْتِحْبَابِ كَيْفَ لَمْ يَكُنْ : : : دو رکعت نماز نفل

پڑھے پہلی رکعت میں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّيَ الْأَعْلَى

ایک بار پڑھے اور دوسری رکعت میں سُوْرَةُ الْقَدْرِ پانچ بار

پڑھے پھر یہ دُعَاءُ پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ

اے اللہ! کر دے محبتِ لہنی سب چیزوں سے زیادہ محبوب میرے

إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ

لئے اور کر دے ڈر اپنا تمام چیزوں سے زیادہ ڈرانے والا

عِنْدِي اللَّهُمَّ إِذَا أَقْرَبَتْ عَيْنُونَ أَهْلِ

نزدیک میرے اے اللہ! جب ٹھنڈا کیا تو نے دنیا داروں کی آنکھوں کی

الدُّنْيَا بَدُنْيَاهُمْ فَاقْرِمْ عَيْنِي بِكَ

ساتھ مال دنیا ان کی کے پس ٹھنڈا کر دے تو میری دونوں آنکھوں کو ساتھ اپنے

وَيُعْبَادُكَ وَاقْطَعْ عَنِّي لَذَائِدَ الدُّنْيَا

اور ساتھ عبادتِ اپنی کے اور توڑ ڈال مجھ سے لذتیں دنیا کی

يَانِسِكَ وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ وَاجْعَلْ

ساتھ محبتِ اپنی کے اور شوق پیدا کرنے کے اپنے لقار کی طرف اور کر دے

طَاعَتِكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِّنِي يَا ذَا الْجَلَالِ

اپنی عبادت کو ہر چیز میں میرے لئے اے صاحبِ بزرگی

وَإِلَّا كُرَامٍ ۝ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ

اور عزت کے اے اللہ! نصیب کر دے مجھ کو محبتِ اپنی

وَحُبِّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبِّ مَنْ يُحِبُّكَ

اور محبت اس کی جس نے دوست رکھا تجھ کو اور محبت اس کی جو دوست رکھیں گے تجھ کو

وَحُبِّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ وَاجْعَلْ

اور محبت ایسے عمل کی جو قریب کرے مجھے طرف محبت تیری کے اور کر دے

حُبِّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ

محبت اپنی کو بہت بہاری چیزوں سے طرف ہمارے ٹھنڈے پانی سے

الْبَارِدِ وَاللُّعْطَشَانِ يَا ذَا الْجَلَالِ

پیتاسوں کے واسطے اے صاحب بزرگی

وَالْإِكْرَامِ ۝ اللَّهُمَّ اسْقِنِي بِكَاسٍ

اور عزت کے اے اللہ پہلا مجھ کو پیالہ سے

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَةً

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے گھونٹ

لَا أَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا بِرَحْمَتِكَ يَا

کہ نہ پیاسا ہوں میں بعد اس کے کبھی ساتھ رحمت اپنی کے اے

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ ط

سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے

دُعَاۃ شُكْر النَّهَارِ

دُعَاۃ شُكْر النَّهَارِ

دُعَاۃ شُكْر النَّهَارِ کے لئے : دو رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں اَلْحَمْدُ شَرِيفَا کے بعد سُوْرَةُ اِخْلَاصِ ایک بار پڑھے۔ نماز کے بعد یہ دُعَا پڑھے :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی حُسْنِ الصَّبَاحِ وَ

سب تعریف اللہ کو اوپر نیک گزرنے صبح کے اور

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی حُسْنِ الْمَسَاءِ وَالْحَمْدُ

سب تعریف اللہ کو اوپر نیک گزرنے شام کے اور سب تعریف

لِلّٰهِ عَلٰی حُسْنِ الْمَبِیْتِ اَللّٰهُمَّ لَكَ

اللہ کو اوپر نیک گزرنے رات کے یا اللہ تیرے لئے ہے

اَلْحَمْدُ حَمْدًا اَدَامًا مَّعَ دَاوَامِكَ

تعریف ہمیشہ رہنے والی ساتھ ہمیشگی تیری کے

وَلِكِ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لَهُ

اور تیرے واسطے سب تعریف جس تعریف کی کوئی انتہا نہیں سوا

دُونَ مِثْلِكَ وَلِكِ الْحَمْدُ حَمْدًا

تیرے ارادہ کے اور تیرے واسطے ہے ہر تعریف

عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةٍ عَيْنٍ وَتَنْفِسِ كُلِّ

وقت دیکھنے آنکھ کے اور نکلنے ہر

نَفْسٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا إِذَا

سانس کے سب تعریف واسطے اللہ کے تعریف ہمیشہ

عَدَدَ الْقَطْرَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْحَجَرِ

رہنے والی گنتی قطروں اور روئدگیوں اور پتھروں

وَالشَّجَرِ وَالْأُورَاقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

اور درختوں اور پتوں کے سب تعریف ثابت ہے واسطے اللہ

كَفَاهُ وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ

کے کہ بی لوری ہو اس کو اور رحمت نازل ہو اوپر پیغمبر اہلے حضرت محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ

بِرَحْمَتِكَ أَرْجُو أَفَلَا تَكُونِي إِلَى نَفْسِي

ساتھ رحمت تیری کے امید کرتا ہوں میں پس نہ سوئیپ مجھ کو طرف نفس میرے کے

وَأَلَا إِلَى غَيْرِكَ ظُرْفَةٌ عَيْنٍ وَلَا آقْلٌ

اور نہ طرف غیر اپنے کے بقدر چھیننے آنکھ کے اور نہ

مِنْ ذَلِكَ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ بِإِذْنِ

اس سے اور سنوار دے میرے تمام حالات کو میرکت اس کے کہ نہیں

اللَّهِ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ

کوئی معبود سوا تیرے تو ایک ہے نہیں کوئی شریک تیرا اور

تُبُّ عَلَيْكَ وَأَغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي أَنْتَ خَيْرُ

تویر قول کر میری اور بخش دے مجھ کو اور رحم کر مجھ پر تو بہت اچھا ہے

الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَالْبُحْرَانُ

سب مہربانوں سے اے اللہ واسطے تیرے ہے سب تعریف اور ظرف تیری ہے

الْمُشْكِي وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَلَا

شکایت اور تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اور نہیں پھرنا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ ۝

گناہوں سے اور نہیں طاقت نیک کام کی مگر تیری توفیق سے

دُعَا بَرِّ الرَّحْمٰنِ وَوَالِدِيْنَ

حقوق والدین کے لیے دعا

حقوق والدین کے لئے : دو رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور تین بار قل شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھے۔ والدین کی خدمت میں سے اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہوگی تو خداوند قدوس اپنے فضل سے معاف فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا لَطِیْفُ اَطْفِ بِيْ وَبِوَالِدِيْ فِيْ

اے مہربان مہربانی کر ساتھ میرے اور ماں باپ میرے کے تمام

جَمِیْعِ الْاَحْوَالِ كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضٰی يَا

حالات میں جیسا تو پسند کرے اور خوش ہو اے

عَلِیْمُ يَا قَدِيْرٌ وَاغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدِيْ اِنَّكَ

جاننے والے اے قدرت والے اور بخش دے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بے شک

عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے

دُعَاۃ حَبِیْبٍ

دُعَاۃ حَبِیْبٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُمْ قُمْ یَا حَبِیْبِیْ کُمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

عَجَبًا لِّلْمُحِبِّ کَیْفَ یَنَامُ

تعجب ہے کہ خدا کا دوست کیونکر سوتا ہے

قُمْ قُمْ یَا حَبِیْبِیْ کُمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

طَالِبُ الْجَنَّةِ لَا یَنَامُ

جنت کا طالب نہیں سوتا

قُمْ قُمْ یَا حَبِیْبِیْ کُمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

خَالِقُ اللَّیْلِ لَا یَنَامُ

رات کا پیدا کرنے والا نہیں سوتا

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

خَالِقُ الْخَلْقِ لَا يَنَامُ

مخلوق کا خالق نہیں سوتا

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ لَا يَنَامُ

عرش و کرسی نہیں سوتے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ لَا يَنَامُ

لوح و قلم نہیں سوتے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

كُلِّ الْمَمْلُوكَاتِ لَا يَنَامُ

آسمانی بادشاہتیں نہیں سوتیں

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا يَنَامُ

سُورَج اور چاند نہیں سوتے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ لَا يَنَامُ

زَمِن اور آسمان نہیں سوتے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

النَّجْمُ وَالشَّجَرُ لَا يَنَامُ

تاروں اور درخت نہیں سوتے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

الْبَدْرُ وَالْبَحْرُ لَا يَنَامُ

مشرقی اور سمندر نہیں سوتے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوو گے

الْجَنَّةُ وَالنَّارُ لَا يَنَامُ

جنت اور دوزخ نہیں سوتے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوو گے

الْحُورِ وَالْقُصُورِ لَا يَنَامُ

حوریں اور محلات نہیں سوتے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوو گے

الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ لَا يَنَامُ

پرندے اور وحشی جاندار نہیں سوتے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوو گے

النُّومُ عَلَى الْمَحَبِّ حَرَامٌ

نیند محبت کرنے والے پر حرام ہے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

طَالِبُ الْمَوْلَى لَا يَنَامُ

خدا کا طالب نہیں سوتا

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

الْعَاشِقُ وَالْمَعْشُوقُ لَا يَنَامُ

عاشق اور معشوق نہیں سوتے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

الْعِشْقُ وَالْمَحَبَّةُ لَا يَنَامُ

عشق و محبت نہیں سوتے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَا يَنَامُ

رات اور دن نہیں سوتے

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

نِعْمَ السَّوْلِي وَالْاِكْرَامُ لَا يَنَامُ

اچھا خدا احسان والا نہیں سوتا

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

اَدَمُ صَفِيٌّ لِلَّهِ لَا يَنَامُ

حضرت آدمؑ خدا کا پسندیدہ نہیں سوتا

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

اِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّهِ لَا يَنَامُ

ابراہیمؑ خدا کا خلیل نہیں سوتا

قُمْ قُمْ يَا حَبِيبِي كَمْ تَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

مُوسَىٰ كَلِيمُ اللَّهِ لَا يَنَامُ

موسےؑ خدا کا کلیم نہیں سوتا

دَعْلَةٌ
قَمْرٌ يَا حَبِيبِي كَمُتَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

عِيسَى رُوحُ اللّٰهِ لَا يَنَامُ

عیسیٰ خدا کی (بیدار کردہ) روح نہیں سوتا

قَمْرٌ يَا حَبِيبِي كَمُتَنَامُ

کھڑے ہو کھڑے ہو اے حبیب کب تک سوؤ گے

وَرَسُولُ اللّٰهِ لَا يَنَامُ

حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی نہیں سوتے

بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ

بلندوں کو پہنچے اپنے کمال کے ساتھ

كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ

(کفر کے) اندھیروں کو دور کیا اپنے جمال کے ساتھ

حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ

اچھی ہیں ان کی تمام کی تمام عادات

صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

دُور و دُور ان پر اور ان کی آل پر

دُعَاة حَاجَت

دُعَاة حَاجَت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِیْمُ الْكَرِیْمُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑبڑبار بزرگ ہے

سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ط

پاک ہے اللہ تعالیٰ مالک عرش عظیم کا

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اَسْءَلُكَ

اور سب تعریفیں ہیں اللہ رب العالمین کے لئے میں سوال کرتا ہوں

مَوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ

اسبابنا آپ کی رحمت کے اور سامان آپ کی بخشش کے

وَالْغَنِيَّةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَّالسَّلَامَةَ

اور زیاں حصہ ہر نیکی سے اور سلامتی ہر

مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدْعُنِيْ ذُنُوبًا اِلَّا

گناہ سے نہ چھوڑے میرا کوئی گناہ مگر

غَفْرَتَهُ وَلَا هَمًّا وَلَا فَرْجَتَهُ وَلَا

اسے بخش دیکھئے اور نہ کوئی پریشانی مگر اسے دور کر دیجئے اور نہ کوئی

حَاجَةٌ هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضِيَّتَهَا

حاجت جو آپ کی پسندیدہ ہو مگر اسے پوری کر دیجئے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

مُسَبَّغَاتِ عَشْرُ

مسیبغات عشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ الرَّحْمَنِ ○

سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مہربانی ہیں ہر ہر عالم کے جو بڑے مہربان

الرَّحِيمِ ○ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ○ إِيَّاكَ

نہایت رحم والے ہیں جو مالک ہیں روز جزا کے ہم آپ ہی کی

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ○ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ

عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اعانت کی درخواست کرتے ہیں ۔ بتلا دیجئے

الْمُسْتَقِيمِ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

ہم کو راستہ سیدھا راستہ اُن لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے

عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

نہ راستہ اُن لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ اُن

وَالضَّالِّينَ ۝ (سبع مرتبہ)

لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے (سات مرتبہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ

آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک آدمیوں

النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ

کے بادشاہ آدمیوں کے معبود کی بناہ لبتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے

الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ

والے کے شہرے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ

النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ (سبع مرتبہ)

ڈالتا ہے خواہ وہ جن ہو یا آدمی سات بار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ

آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات

مَا خَلَقَ ۝ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝

کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جاوے

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ

اور گریہوں پر پڑھ پڑھ کر بھٹو مکنے والیوں کے شر سے اور حد کر نولے

شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ (سبع مرّۃ)

کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے (سات بار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝

آپ کہہ دیجئے کہ وہ (یعنی) اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے

لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ

اسکے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (سبع مرّة)

اس کے برابر کا ہے (سات بار)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ

آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو! تمہاری تہ نہیں تمہارے معبودوں کی

مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُ

پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی

مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عِبَدْتُمْ ۝

پرستش کرتے ہوں اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا

وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ

اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے تم کو تمہارا

أَدِينُكُمْ وَإِلَىٰ دِينِ ۝ (سبع مرّة)

میرا دین ہے اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا (سات بار)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

و اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں زندہ ہے سنبھالنے والا ہے نہ

تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي

اس کو اونگھ دیا سکتی ہے اور نہ نیند ایسی کے مملوک ہیں سب

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي

جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں ایسا کون ہے جو اس کے

يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا

پاس سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے وہ جانتا ہے ان کے

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا

تمام حاضر و غائب حالات کو اور وہ موجودات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو

يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

اپنے احاطہ علمی میں نہیں لاسکتے مگر جس قدر چاہے

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر رکھا ہے

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ

اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گران نہیں گورتی اور وہ عالی شان

الْعَظِيمِ ۝ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ

عظیم الشان ہے دین میں زبردستی نہیں ہر ایت

بَيِّنَاتٍ لِّلرُّشْدِ مَنَ الْغَىٰ فَمَن يَكْفُرْ

یقیناً اگر ای سے ممتاز ہو چکی ہے سو جو شخص شیطان

بِالظَّالِمَاتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ

سے بد اعتقاد ہو اور اللہ سے خوشن اعتقاد ہو تو

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا

اس نے بڑا مضبوط قلعہ تمام لیا جس کو

انْفِصَامٍ لِّهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

کسی طرح شکستگی نہیں اور اللہ سنے والا جاننے والا ہے

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ

اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ان کو تازہ یکوں سے نکال کر

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

یا بیجا کر نور کی طرف لاتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں

أُولَئِكَ هُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ

ان کے ساتھی شیاطین ہیں وہ ان کو نور سے نکال کر

النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ

یا بچا کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں ایسے لوگ دوزخ میں رہنے

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿سبع مرتبہ﴾

والے ہیں یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے (سات بار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے ہیں

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ

پاک ہے اللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کے اور نہیں کوئی معبود

اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا

سوائے اللہ کے اور اللہ بزرگ تر ہے اور نہیں طاقت پھرنے کی

قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ﴿سبع مرتبہ﴾

گناہوں سے اور نہیں طاقت عبادت کی سوائے توفیق اللہ عالی مرتبت عظیم الشان کے (سات مرتبہ)

عَدَدَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَوَزْنَةَ مَا عَلِمَ

موافق گنتی اس چیز کے جو جانتا ہے اللہ اور وزن اس چیز کے جو جانتا ہے

اللّٰهُ وَمِثْلَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ (ثَلَاثًا)

اللہ اور جسامت، اس چیز کے جو جانتا ہے اللہ (تین مرتبہ)

بِزْرَةٍ مِنْ حَوْلِي وَقُوَّتِي وَالْجَآتُ

بیزار ہوا میں اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اور پناہ پکڑی میں نے

إِلَى حَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ فِي جَمِيعِ

طرف طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کے اپنے تمام

أُمُورِي (مَرَّةً وَاحِدَةً)

کاموں میں (ایک بار)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ

اے اللہ رحمت بھیج - اُوپر محمد بندے اپنے کے اور

نَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ

نبی اپنے کے اور حبیب اپنے کے اور رسول اپنے نبی

الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ

آئی کے اور ان کی آل اور اصحاب اور

بَارِكْ وَسَلِّمْ (سَبْعَ مَرَّاتٍ)

بارک و سلامت اور سلام بھیج (سات بار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وِلْوَالِدِيْ وَارْحَمَهُمَا

اے اللہ بخش مجھ کو اور ماں باپ میرے کو اور رحم کراؤں پر جیسا

كَمَا رِيَّيْتَنِيْ صَغِيْرًا وَّاغْفِرْ اَللّٰهُمَّ

پالا انھوں نے مجھ کو لڑکپن میں اور بخش اے اللہ

لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ

تمام ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اور مسلمان مردوں

وَالْمُسْلِمٰتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

اور مسلمان عورتوں کو جو زندہ ہیں ان میں سے اور جو مردہ ہیں

بِرَحْمٰتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝ (سبع مرّۃ)

اپنی رحمت کے ساتھ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے (سات بار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِيْ وَبِهِمْ عَاجِلًا

اے اللہ اے رب کر میرے ساتھ اور ان کے ساتھ جلدی

عَشْرَتَا
وَاجْلَانِي فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور آہستگی سے دین اور دنیا اور آخرت میں

مَا أَنْتَ لَكَ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَايَا

وہ بات جس کے ہو لائق ہے اور نہ کر ہمارے ساتھ اے

مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَكَ أَهْلٌ إِنَّكَ

مولا ہمارے وہ کام جو ہم لائق ہیں اس کے تحقیق تو

غَفُورٌ حَلِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ

بخشنے والا متمم سخی بزرگ بادشاہ

بِرٌّ رَأُوفٌ رَحِيمٌ (سبع مرّۃ) اَللّٰهُمَّ

پاک مہربان رحم والا (سات مرتبہ) اے اللہ

هُدِنِي بِرَأْفَتِكَ يَا نَافِعُ وَرَافِعُ

ہدایت کر مجھ کو ساتھ مہربانی اپنی کے اے نفع دینے والے اور بلند دینے

تَوْفِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ

والے موت دے مجھ کو مسلمان اور فلا مجھ کو ساتھ نیکوں کے

(سب سے زیادہ) يَا جَبَّارُ (احد وعشرون مرّۃ)

(ایک بار) (بچھ مرتبہ) سب سے زبردست (۲۱ بار پڑھے)

أُورَادُ الْأُسْبُوعِ الشَّرِيفَةِ لِسَيِّدِنَا الْغَوْثِ الْأَعْظَمِ

یہ اسبوع شریف کے اوراد مصنف ہمارے سردار غوث اعظم

أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ

ابنی محمد عبد القادر جیلانی کے ہیں

وَرْدٌ رَوِيكَ شَنْبَه (اوار)

اوار کے روز کا وظیفہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْجَلِيلُ

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی ہے بزرگ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اللَّطِيفُ الْخَلِيمُ ۝

بڑا مہربان نہایت رحم والا لطف کرنے والا صاحب علم

الرَّءُوفُ الْعَفُوفُ ۝ الْمُؤْمِنُ النَّصِيرُ ۝

مہربان معاف کرنے والا امن دینے والا مددگار

الْمُبْتَلِيُّ الْمُبْتَلِيُّ ۝ الْقَرِيبُ السَّرِيعُ ۝

دعا میں قبول کرنے والا فریاد سننے والا نزدیک جلدی حاجت لینے والا

اَتَكْرِيْمُ ذُو الْاِكْرَامِ ذُو الطُّوْلِ رَبِّ

کرم کرنے والا صاحب اکرام صاحب حشمت اسے پروردگار

اَكْسَنِي مِنْ جَمَالِ بَدِيْعِ الْاَنْوَارِ

میرے مجھے ایسے جمال بدیع الانوار کے

الْجَمَالَيَّةِ وَمَا يُدْهِشُ اَبْوَابَ الذَّرَاتِ

لباس خوبصورت پہنا جو اپنی روشنی سے پیدائشی ذرات کے دروازے بند کر دے

الْكُوْنِيَّةِ فَتَوَجَّهَ اِلَى حَقَائِقِ الْمَكُوْنَاتِ

یعنی تمام اندھیرے مجھ سے دور ہو جاویں پس حقائق کائنات کے مجھ پر ذاتی محبت

تَوَجَّهَ الْمَحَبَّةِ الذَّاتِيَّةِ الْجَاذِبَةِ

مطلق جمال کی شہود کی طرف کھینچنے والے توجہ

اِلَى شَهُوْدِ مُطْلَقِ الْجَمَالِ الَّذِي لَا

مجھ پر کریں وہ جمال کہ جس کو کوئی کلنگ نہیں

يُضَارُّهَا قَبْحٌ وَلَا يَقْطَعُ عَنْهُ اِيْلَامٌ

کلنگ اور نہ کبھی اس کو کوئی دکھ قطع کرتا ہے

وَاَجْعَلْنِي مَرْحُوْمًا مِنْ كُلِّ رَحِيْمٍ بِحُكْمِ

اور مجھے ہر ایک رحمت سے مرحوم کر ساتھ حکم اسی

الْعَطْفِ الْحَبِي الَّذِي لَا يَشُوبُهُ

محبت کرنے والے مہربان کے جس میں کوئی انتقام کا

انتقام وَلَا يَنْقُصُهُ غَضَبٌ وَلَا

شائبہ نہیں اور نہ اس کو کوئی غضب ناخوش کرتا ہے اور نہ

يَقْطَعُ مَدَدَهُ سَبَبٌ وَتَوَلَّى ذَاكَ

اس کی یاوری کو کوئی سبب کاٹ سکتا ہے اور اس بات کی کارسازی

بِحُكْمِ أَيْدِيهِ وَارْتِيَّتِكَ إِلَى غَيْرِ نَهَائِهِ

فرما ساتھ اپنی ابدایت اور اپنی لانہایت دوام اور ہمیشگی کے ہمراہ کہ جس کو

لَا تَقْطَعُهَا غَايَةٌ يَا رَحِيمٌ هُوَ الرَّحِيمُ

کوئی حد ختم نہیں کرتی اے مہربان تو ہی مہربان ہے

رَبَّاهُ رَبَّاهُ غَوْثُهُ يَا خَفِيًّا لَا يَظْهَرُ

اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے پوشیدہ جو ظاہر نہیں ہوتا

يَا ظَاهِرًا لَا يَخْفَى لَطْفَتُ اسْرَارِ

اے ظاہر جو پوشیدہ نہیں ہوتا تیرے اعلیٰ وجود کے اسرار

وَجُودِكَ الْأَعْلَى فَتَرَى فِي كُلِّ مَوْجُودٍ

باریک ہیں پس تو ہر ایک موجودات میں دیکھا جاسکتا ہے

وَعَلَّتْ أَنْوَارُ ظُهُورِكَ الْأَقْدَاسِ فَبَدَتْ

اور تیرے پاک ظہور سے انوار بلند ہیں پس ہر ایک

فِي كُلِّ مَشْهُودٍ وَأَنْتَ الْحَلِيمُ الْمَنَّانُ

مشہود میں ظاہر ہوزہے ہیں اور تو علم کرنے والا مہربان ہے

بِالرَّأْفَةِ وَالْعَفْوِ السَّرِيعِ بِالْمَغْفِرَةِ

احسان والا اور جلدی معافی بخشش کے ساتھ کرنے والا ہے

مُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ نَصِيرُ الْمُسْتَغِيثِينَ

خوف کرنے والوں کو امن دینے والا فریاد کرنے والوں کو مدد دینے والا

الْقَرِيبُ بِمَجْرَجَاتِ الْقُرْبِ وَ

قرب اور بعد کے جہات دور کر کے قریب کر

الْبُعْدِ عَنِ عَيُونِ الْعَارِفِينَ يَا كَرِيمُ

دینے والا عارفوں کی آنکھوں سے پردہ اٹھانے والا لے کر م کرنے والے

يَا كَرِيمُ يَا ذَا الطَّوْلِ وَالْإِكْرَامِ وَسَلَامٍ

اے کریم کرنے والے اے صاحبِ حشمت اور بزرگی کے سلام

قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

کہا گیا ہے کہ تیرے اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

جو پروردگار ہے جہانوں کا

وَرِدْ رَوْذِ وَشَنَبِه (پیر)

پیر کے روز کا وظیفہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَلِيمُ

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں صاحبِ علم

الرَّحِيمُ الْفَعَّالُ اللَّطِيفُ الْوَلِيُّ

نہایت مہربان کارکن باریک بین کارساز

الْحَمِيدُ الصَّبُورُ الرَّشِيدُ الرَّحْمَنُ

سراہا گیا متمثل ہدایت والا مہربان

رَبِّ اذْقِنِي مِنْ بَرْدِ حَلِيمِكَ عَلَيَّ

اے پروردگار میرے مجھے اپنے علم کی ٹھنڈک چکھا جو میرے

مَا ابْتَهَجُ بِهِ فِي عَوَالِمِي فَلَا أَشْهَدُ

حق میں ہو جس کے ساتھ میں اپنی معلومات کی رُو سے خوش ہو جاؤں

فِي الْكُونِ إِلَّا مَا يَفْتَضِي سَكُونِي وَ

پس جہاں میں اپنے سکون اور رضا کے اقتضا ہے

رِضَائِي فَإِنَّكَ الْحَقُّ وَأَمْرُكَ الْحَقُّ

دکھائی دیوں کیونکہ تو حق اور تیرا امر حق ہے

وَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّحِيمُ رَبِّ اشْهَدْنِي

اور تو حکمت والا مہربان ہے اسے میرے پروردگار مجھے

مُطْلَقًا فَأَعْلِيَّتِكَ فِي كُلِّ مَفْعُولٍ حَتَّى

ہر ایک مفعول میں اپنی فاعلیت دکھا یعنی مجھے ایسا کر کہ میرے کمال قدرت

لَا أَسْمَى فَأَعْلَا غَيْرِكَ لِأَكُونَ مُطْمَئِنًّا

کے سوا کسی فاعلیت کو خیال میں نہ لاؤں یہاں تک کہ کوئی فاعل تیرے سوا نہ

تَحْتَهُ جُزْءٌ مِنْ أَمْرِكَ مُنْقَادًا لِكُلِّ

دیکھوں تاکہ تیری تقدیروں کے نیچے ثابت و مطمئن دل ہو جاؤں اور تیرے

حُكْمٍ وَجُودِي عَيْنِي وَعَيْنِي وَبِرْزَخِي

ہر ایک حکم و وجودی عینی اور عینی اور برزخی کا فرمانبردار

يَا نَافِخًا سُورِحَ أَمْرِهِ فِي كُلِّ عَيْنٍ

ہو جاؤں اے امر کی سُورِح ہر ایک وجود میں پھونکنے والے

اجْعَلْنِي مُنْفَعًا فِي كُلِّ حَالٍ لِّمَا

مجھے امر قبول کرنے والا ہر حال میں کر جو کہ مجھے

يَحْوِلُنِي عَنْ ظُلْمَتِ تَكْوِينَاتِي وَامْحَقُّ

جہان کے اندھیروں سے برگشتہ کرے اور اپنے اور اپنے فعل

فِعْلِي وَفِعْلَ الْفَاعِلِينَ فِي أَحَدِيَّةٍ

کے اکیلا پن میں میرا فعل اور تمام فاعلین کا فعل نیست

فِعْلِكَ وَتَوَلَّنِي بِجَمِيلِ خَيْرِكَ

کر دے اور اپنے بزرگ اور نکوئی والے اختیار سے جو تو میرے لیے رکھتا ہے

لِي فِي جَمِيعِ تَوَجُّهَاتِي وَأَفِنْ مِنِّي

میری کار سازی تمام توجہات سے کر اور میرے ارادہ کو مجھ سے

رَادَاتِي وَصَبِّرْنِي وَسِدِّدْنِي وَارْحَمْنِي

قانی کر اور مجھے صبر دے اور مجھے نقصانی خواہشوں سے بند کر اور مجھ پر رحم کر

وَاصْحَبْنِي بِاللُّطْفِ وَالْعِنَايَةِ بِمَعِيَّةٍ

اور لطف و عنایت سے میری ہمراہی اور ساتھ ہمراہی خاص کے اور جو

خَاصَّةً مِنْكَ وَحَقِّقْنِي بِقُرْبِكَ الَّذِي

مجھے تیرے ساتھ ہو فرما اور مجھے اپنے اس قرب کے لائق کر جس میں

لَا وَخَشَةَ مَعَهُ يَا رَحْمَنُ يَا سَلَامُ

میرے ساتھ کوئی وحشت نہ رہے اے رحمن اے سلامتی دینے والے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

اور سب تعریف اللہ پروردگار عالمین کو ہے

وَرِدَ رَوْضَةُ شَنْبَه (منگل)

منگل کے روز کا وظیفہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِلَهِي مَا أَحْلَمَكَ عَلَى مَنْ عَصَاكَ

اے میرے معبود برحق تو کیسا بردبار ہے اس پر جو تیری نافرمانی کرے

وَمَا أَقْرَبَكَ مِمَّنْ دَعَاكَ وَمَا

اور تو کیسا قریب ہے اس سے جو تجھے پکارے اور تو کیسا

أَعْطَفَكَ عَلَى مَنْ سَأَلَكَ وَمَا أَرْأَفَكَ

مہربان ہے اس پر جو تجھ سے سوال کرے اور تو کیسا بڑا رحیم ہے

بَيْنَ أُمَّلِكَ مَنْ ذَا الَّذِي سَأَلَكَ

اس کے ساتھ جو تجھ سے امید رکھے کون ہے جس نے تجھ سے سوال کیا

فَحَرِّمْتَهُ أَوْ لَجَأَ إِلَيْكَ فَأَهْمَلْتَهُ

پس تو نے اس کو محروم رکھا یا تیری طرف مہتی ہو یا پس تو نے اس کو بیکار

أَوْ تَقَرَّبَ مِنْكَ فَأَبْعَدْتَهُ أَوْ هَرَبَ

بچھوڑا یا تجھ سے ملا پچھا یا پس تو نے اس کو دور کر دیا یا تیری طرف

إِلَيْكَ فَطَرَدْتَهُ لَكَ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

دوڑ کر آیا پس تو نے اس کو دھتکار دیا سب خلقت تیری ہے سب امر

إِلَهِي أَتَرَكَ تَعْدُ بِنَا وَتُوْحِيدُكَ فِي

تیرے ہیں اے میرے معبود کیا تو مناسب سمجھتا ہے کہ تو ہمیں عذاب سے درآخالیکہ

قُلُوبِنَا وَمَا أَخَالُكَ تَفْعَلُ وَلِيْنُ

تیری توحید ہمارے دلوں میں ہو اور میں گمان نہیں کرتا کہ تو ایسا کرے اور اگر تو

فَعَلْتَ أَتَجْمَعُنَا مَعَ قَوْمٍ طَالَ مَا

ایسا کرے تو کیا تو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کریگا جن کو ہم بڑی مدت سے تیری

بَغْضَانَاهُمْ لَكَ فَبِالْمَكْنُونِ مِنْ أَسْمَائِكَ

محببت کے سبب سے دشمن جانتے ہیں پس اپنے ناموں کی یہ پوشیدہ تاثیرات کے سبب سے

وَمَا وَارَتْهُ الْحَجَبُ مِنْ بَهَائِكَ

اور اس نور ذات کے طفیل سے جو یہ پردوں میں پوشیدہ ہے

اَنْ تَغْفِرَ لِهَذِهِ النَّفْسِ الَّتِي اَهْلُوَعِ وَ

اس حریص نفس اور اس کے صبر

لِهَذَا الْقَلْبِ الْجَزُوعِ الَّذِي لَا يَصْبِرُ

کو بخش جو کہ دھوپ کی گرمی میں صبر

لِحَرِّ الشَّمْسِ فَكَيْفَ يَصْبِرُ لِحَرِّ نَارِكَ

نہیں کر سکتا پس تیری آگ کی گرمی میں کس طرح صبر کر سکے گا

يَا حَلِيمٌ يَا عَظِيمٌ يَا كَرِيمٌ يَا رَحِيمٌ

اے حلم کرنے والے اے بڑے مرتبہ والے اے سخی اے مہربان

اللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الذَّلٰلِ اِلَّا

اے اللہ ہم تیری ہی پناہ میں آتے ہیں ذلت سے مگر جو

لَكَ وَمِنْ الْخَوْفِ اِلَّا مِنْكَ وَمِنْ

تیرے لئے ہو اور خوف سے مگر جو تجھ سے ہو اور فقر و فاقہ

الْفَقْرِ اِلَّا اِلَيْكَ اللَّهُمَّ كَمَا صُنَّتَ

سے پناہ مانگتے ہیں مگر جو تیری طرف ہو اے اللہ جیسا تو نے ہمارے

وَجُوْهَنَا اَنْ نَسْجُدَ لِعَيْرِكَ فَصِنِّ اَيْدِيَنَا

مومنوں کو غیر کے آگے سجدہ کرنے سے بچایا ایسا ہی ہمارے ہاتھوں کو بچا کہ

أَنْ تَمْتَدَّ بِالسُّؤَالِ لِغَيْرِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا

ہمارے ہاتھ غیر کے آگے سوال نہ کریں کوئی معبود نہیں مگر تو ہی ہے

أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○

تُو پاک ہے بے شک ہیں ظالموں میں سے ہوں

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

اور سب صفت و ثنا پروردگار جہانوں کے لئے ہے

وَرَدَّ رَوْزِ چہار شنبہ (بُدھ)

بُدھ کے روز کا وظیفہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِلَهِي عَمَّ قَدَمِكَ حَدِيثِي فَلَا أَنَا وَ

اے اللہ تیری ہمیشگی نے میری پیدائش پر عام احسانات کئے پس میں

أَشْرَقَ سُلْطَانُ نُورٍ وَجْهَكَ فَاضَاءَ

تو کچھ نہیں اور میری ذات کا نور مجھ پر چمکا پس میری بشریت کے

هَيْكَلٍ بِبَشَرِيَّتِي وَلَا سِوَاكَ فَمَادَامَ مِنِّي

ہیکل کو روشن کر دیا اب ترے سوا کوئی نظر نہیں آتا، پس میں

فَبَدِّ وَأَمَّاكَ وَمَا فَنِي عَنِّي فَبِرُّ وَوَيْتِي

جب تک رہوں گا تیرے بقار کے ساتھ قائم رہوں گا اور جب میں فنا ہوں گا

إِنِّي وَأَنْتَ الدَّائِمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

تو دیدار تیرا مجھے نصیب ہوا اور تو دائم ہے نہیں کوئی معبود مگر تو ہی

أَسْأَلُكَ بِالْأَلْفِ إِذَا تَقَدَّمْتُ وَبِالْهَاءِ

تجھ سے سوال کرتا ہوں طفیل الف اللہ کے جب مقدم کیا جاتا ہے اور طفیل ہاء

إِذَا تَأَخَّرْتُ وَبِالْهَاءِ مَنِي إِذَا انْقَلَبْتُ

کے جب پیچھے آتی ہے اور ساتھ ہاء کے مجھ سے جب لام سے بدل

لَا مَا أَنْ تُفِينِي بِكَ عَنِّي حَتَّى تَلْتَحِقَ

جاتی ہے یہ کہ اپنی ذات کے ساتھ مجھے محو کر دے یہاں تک کہ

الصِّفَةُ بِالصِّفَةِ وَتَقَعُ الرَّاِبِطَةُ بِالذَّاتِ

صفت کے ساتھ صفت مل جاتی ہے اور ذات کے ساتھ رابطہ قائم ہو جائے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ

نہیں کوئی معبود تیرے سوا اے زندہ اے قائم اے صاحب بزرگی اے

وَأَلَّا كُرَامِهِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّم

اور اکرام کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ہو

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

اور ہمارے سردار محمد کے اور ان کے آل پر اور ان کے اصحاب

أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سب پر اور تمام تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ

اور سب تعریفیں اسی اکیلے کو لائق ہیں

وَرَدُّ رُوزِ بَيْتِ شَيْبَةَ (جَمْعَات)

جمعات کے روز کا وظیفہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ دائم ہے اور ہمیشہ قائم ہے

الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

الملك اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ قائم ہے

وَعَنْتَ الْوَجْهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اللَّهُمَّ

اور تمام پہرے زندہ اور قائم خدا کے آگے ذلیل ہوں گے اے اللہ

اِنِّیْ اَسْأَلُکَ یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ

میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ اے اللہ اے اللہ

بِمَا سَأَلْتُکَ بِہِ نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صَلِّیْ

وہ کچھ جو تیرے نبی نے تجھ سے سوال کیا جن کا نام پاک محمد ہے رحمت بھیجے

اَللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ یَا وُدُّو

اللہ تعالیٰ اُن پر اور اُنکی آل پر اور سلام بھیجے اے مہربان

یَا وُدُّو یَا وُدُّو یَا وُدُّو یَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِیْدِ

اے مہربان اے مہربان اے صاحب عرش بزرگ کے

یَا مُبْدِیْ یَا مُعِیْدُ یَا فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْدُ

اے پہلی بار پیدا کرنے والے دوسری بار پیدا کرنے والے اے جو کچھ چاہے کرنے والے

اَسْأَلُکَ بِنُوْرٍ وَجْہِکَ الَّذِیْ مَلَأَ اَرْکَانَ

میرے ذاتی نور کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ نور جس نے عرش کے

عَرْشِکَ وَابْقَدْرَتِکَ الَّتِیْ قَدَّرْتَ

ارکان کو برکت دینا اور تیری قدرت کے طفیل جس کے ساتھ تو

بِہَا عَلٰی جَمِیْعِ خَلْقِکَ وَبِرَحْمَتِکَ

تمام مخلوقات پر قادر و غالب ہے اور تیری رحمت

الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا

کے طفیل جو کہ ہر چیز پر واسع اور فراخ ہے، نہیں کوئی معبود برحق

أَنْتَ يَا مَغِيثُ اغْتِنِي اغْتِنِي

تیرے سوا اے میرے فریادرس میری فریادرسی کر فریادرسی کر فریادرسی کر

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا لَطِيفُ قَبْلَ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے باریک بین ہر ایک

كُلِّ لَطِيفٍ وَيَا لَطِيفُ بَعْدَ كُلِّ لَطِيفٍ

باریک بین سے پہلے اور اے ہر بان ہر ایک ہر بان سے بعد

يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ لَطْفَتِ

اے ہر بان اے ہر بان اے ہر بان اے ہر بان

بِخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَسْأَلُكَ

آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں لطف کیا اے اللہ میں

يَا رَبِّ كَمَا لَطَفْتَ بِي فِي ظُلْمَتِ الْأَحْشَاءِ

مہربانی کا سوال کرتا ہوں جیسا تو نے مجھ پر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں

الطُّفِ بِي فِي قَضَائِكَ وَقَدْرِكَ وَ

لطف کیا ایسا ہی تو مجھ پر اپنی قضا و قدر میں مہربانی کر اور

فَرِّجْ عَنِّي الضُّيُوقَ وَلَا تُحْمِلْنِي مَا لَا

مجھ سے تنگی دور کرے اور جس تکلیف کی میں طاقت نہیں رکھتا وہ مجھ

أُطِيقُ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

پر نہ ڈالو۔ بحرمت محمد کے اُن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت

عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

اور اُن کی آل پر اور بحرمت ابوبکر صدیق اکبر کے

رَاضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا لَطِيفُ يَا

خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو اے مہربان اے

لَطِيفُ يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ يَا لَطِيفُ

مہربان اے مہربان مجھ پر مہربانی کر ساتھ باریک در

خَفِي خَفِي لَطْفِكَ الْخَفِي الْخَفِي الْخَفِي

بارک در باریک لطف اپنے کے جو نہایت مخفی در مخفی در مخفی ہے

إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ اللَّهُ لَطِيفٌ

تو نے فرمایا اور تمہارا فرمانا سچ ہے اللہ مہربان ہے

بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ

اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جس کو چاہے اور وہ قوت والا

الْعَزِيزَةُ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ط

غالب ہے اور ہم کو اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

اور سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پروردگار جہانوں کا ہے

وَرَدُّ رَوْجِ جُمُعَةٍ

جمعہ کے روز کا وظیفہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظِيمٍ قَدِيمٍ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں طفیل بزرگ قدیم

كَرِيمٍ مَكْنُونٍ مَخْزُونٍ اسْمَايَكَ

صاحب عزت پوشیدہ پاک ناموں تیرے کے

وَبِأَنْوَاءِ اجْنَائِسِ رِقْمِ نَقُوشِ أَنْوَارِكَ

اور طفیل قسموں جنسوں رقموں نقشوں نوروں تیرے کے

وَبِعِزِّ بِيْرٍ عِزِّ اِيْرٍ تَعِزِّ عِزَّتِكَ

اور طفیل عزت والے اعزاز بزرگ عزت تیری کے

وَبِحَوْلِ طَوْلِ جَوْلِ شَدِيدِ قُوَّتِكَ

اور طفیل طاقت علیہ حملے شدید قوت تیری کے

وَيَقْدِرُ بِرَأْسِ قَدْرِ قُدْرَتِكَ

اور طفیل قدر اندازے اقتدار قدرت تیری کے

وَبِنَأْيِ يَدِ وَتَحْمِيدِ تَبْرِجِيدِ تَعْظِيمِ

اور طفیل نائید تعریف بزرگی بیان کرنے تعظیم

عَظَمَتِكَ وَالْبَسْمُوتِ عَلَوِ رَفْعَتِكَ

عظمت تیری کے اور طفیل اونچائی بڑھنے بلندی رفعت تیری کے

وَبِقِيَوْمِ دَائِمٍ دَوَامِ مَدَّتِكَ

اور طفیل قائم رکھنے والی ہمیشگی دوام مدت تیری کے

وَبِرِضْوَانِ غَفْرَانِ أَمَانِ مَغْفِرَتِكَ

اور طفیل رضامندی بخش امان مغفرت تیری کے

وَبِرَفِيعِ بَدَائِعِ مَنِيعِ سُلْطَانِكَ

اور طفیل بلند عجائب پختہ حکومت اور

سَطْوَتِكَ وَبِرَهْبَوْتِ عَظَمَوْتِ جَبَرَوْتِ

علیہ تیری کے اور طفیل دیدہ عظمت تکبر

جَلَالِكَ وَبِصَلَاتِ سَعَاتِ سِعَةٍ

جلال تیرے کے اور طفیل رحمت پاک مراخی

بِسَاطِ رَحْمَتِكَ وَيَلْوَامِعِ بَوَاقِ

فرش رحمت تیری کے اور طفیل پھمکنے والے روشن

صَوَاعِقِ عَجِيبِ هَجِيبِ رَاهِيبِ

بجلیوں گرن دار صاف روشن خوشنما نور

بِهَيْبِ نُوْرِ ذَاتِكَ وَبِهَرَقَهْرِ جَهْرِ

ذات تیری کے اور طفیل روشن غلبے ظاہر

مَيْمُونِ اِرْتِبَاطِ وَحَدِّ اِنْدِيَتِكَ وَ

مبارک رابطے توحید تیری کے اور

بِهَدِيْرِ هَيَايِ نَيَايِ نَيَايِ اَمْوَاجِ

طفیل برقی زوردار جوش زن موجوں دریا تیرے کے

بِحُرُكِ الْمَجِيْطِ بِمَلَكُوْتِكَ وَبِاِسْبَاحِ

جو تیری بادشاہی کا محیط ہے اور طفیل فراخ

اِنْفِسَاحِ مَيَادِيْنِ بَرَازِ اِنْرَاحِ كُرْسِيِّكَ

سراخی میسداوں حدود کرسی تیری کے

وَبِهَيْكَلِيَّاتٍ عَلَوِيَّاتٍ رُوحَانِيَّاتٍ

اور عظیم اور پاک اشکال مقامات بلند روحانیات

أَمْلَاكٍ أَفْلَاكٍ عَرْشِيَّاتٍ وَبِأَمْلَاكٍ

ملکوں افلاک عرش تیرے کے اور عظیم فرشتوں

لِلرُّوحَانِيَّاتِ الْمُدَبِّرِينَ لِلْكَوَاكِبِ

روحانیوں کوکب کی تدبیر کرنے والوں

الْمُدَبِّرَةِ بِأَفْلَاكِكِ وَبِحَنِينِ

تیرے آسمانوں کے کارخانہ داروں کے اور عظیم

نَيْنِ تَسْكِينِ قُلُوبِ الْمُرِيدِينَ

گراہی تیزی سکین دلوں تیرے قرب کے

بِقُرْبِكَ وَبِخَضَعَاتٍ حَرَقَاتٍ زَفَرَاتٍ

خواہش مندوں کے اور عظیم عاجزیوں سوزشوں مناجاتوں

الْخَائِفِينَ مِنْ سَطْوَتِكَ وَبِأَمْالِ

آہ و تیزی تیری ہیبت سے ڈرنے والوں کے اور عظیم بخشش

نَوَالِ أَقْوَالِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي مَرْضَاتِكَ

کی امیدوں تیری رضا مندی میں کوشش کرنے والوں کے

وَبِتَّخِضِيهِ تَفْطِيهِ تَفْطِرُ تَعْظِيمِ

اور طفیل عجز و نیاز بھاری تکلیف کی تنگی تلخیوں

مَرَّ آيِرِ الصَّبِيرِينَ عَلَى بَلَوَائِكَ وَ

صابر لوگوں کے تیری بلاؤں پر اور

بِتَعَبِدِ تَجَدُّدِ تَجَدُّدِ الْعَبِيدِينَ عَلَى

طفیل بندگی بزرگی بہادری عابد لوگوں کے تیری

طَاعَتِكَ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ

اطاعت پر اے اول اے آخر اے ظاہر

يَا بَاطِنُ يَا قَدِيمُ يَا مُقِيمُ يَا قَوِيمُ

اے باطن اے قدیم اے مقیم اے قائم رہنے والے

إِطْمِسْ بِطَلْسَمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

محو کر دے برکت طلسم بسم اللہ الرحمن

الرَّحِيمِ شَرَّ سَوِيدِ آءِ قُلُوبِ أَعْدَائِنَا

الرحیم کے شر سیاہی دلوں دشمنوں ہمارے

وَأَعْدَائِكَ وَدُقْ أَعْنَاقَ رَاءِ أَوْسِنِ

اور دشمنوں اپنے کو اور اپنے قہر و غلبہ کی تیز تلواروں

الظلمة بسيف نشات قهرك

ظالموں کے سروں سے گردنیں کاٹ دے

وسطوتك واجبنا بحبك

اور ہم کو اپنے محکم پر دوں

لكثيفة بحولك وقوتك وقد راتك

میں بہ طفیل اپنی طاقت و قوت اور قدرت

عن لحظات لمحات لمعات

اُن کی آنکھوں کی بد نظروں کے چمکاروں سے

ابصارهم الضعيفة بعزتك و

دُھانپ لے بہ طفیل اپنی عزت و

قدراتك وسطوتك يا الله يا الله

قدرت کے اور علیے کے اے اللہ اے اللہ

يا الله وصب علينا من انابيب

اے اللہ اور ہم پر توفیق کے نواروں کے

ميايزيب التوفيق في راضات

ننگوں سے راضیوں کے باغوں میں

السَّعَادَاتِ اِنَّا لِيَدِكَ وَاَطْرَافِ نَهَارِكَ

رات دن پانی برسا اور ہم کو

وَاغْبِسُنَا فِي اَحْوَاضِ سَوَاقِي مَسَارِقِي

اپنی نکوئی و احسان کے جاری و سیراب حوضوں میں

بِرِّكَ وَرَحْمَتِكَ وَقَيِّدْنَا بِقِيُودِ

نہلا اور ہم کو گناہوں سے بچنے

السَّلَامَةِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي مَعْصِيَتِكَ

کی قیدوں میں قید رکھنا

يَا اَوَّلُ يَا اٰخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ

اے اول اے آخر اے ظاہر اے باطن

يَا قَدِيمُ يَا قَوِيْمُ يَا مُقِيْمُ يَا مُوَلَّاءِي

اے قدیم اے قائم اے مقیم اے میرے مولا

يَا قَادِرُ يَا مُوَلَّاءِي يَا غَافِرُ يَا لَطِيْفُ

اے قادر اے میرے مولا اے گناہ بخشنے والے اے لطف کرنے والے

يَا خَبِيْرُ اَللّٰهُمَّ ذَهَلْتِ الْعُقُوْلُ وَ

اے خبر رکھنے والے اے اللہ عقل جاتی رہی اور

أُنْحَسِرَتِ الْأَبْصَارُ وَخَارَتِ الْأَوْهَامُ

آنکھیں تھک گئیں اور وہم حیران ہو گئے

وَصَاقَتِ الْأَفْهَامُ وَبَعَدَتِ الْخَوَاطِرُ

اور فہم تنگ ہو گئے اور دل کی باتیں دُور جا پڑیں

وَقَصُرَتْ الظُّنُونُ عَنْ إِدْرَاكِ كُنْهِ

اور ظن احم ہمت ہو گئے تیزی ذات کی کد

كَيْفِيَّةِ ذَاتِكَ وَمَا ظَهَرَ مِنْ بَوَادِي

کیفیت معلوم کرنے سے اور تیرے قسم قسم کے

عَجَائِبِ أَنْوَاعِ اصْنَافٍ قُدْرَاتِكَ

عجاibat کے جنکوں سے کچھ ظاہر نہ ہوا

دُونَ الْبُلُوغِ إِلَى تِلْكَ الْمَحَاتِ لِمَحَاتِ

سوائے پہنچنے چمکارے روشنیوں چمک

بِرُوقِ شُرُوقِ أَسْمَائِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

دک ناموں تیرے کے اے اللہ اے اللہ

يَا اللَّهُ يَا أَوَّلَ يَا آخِرَ يَا ظَاهِرَ

اے اللہ اے اول اے آخر اے ظاہر

يَا بَاطِنُ يَا قَدِيمُ يَا قَوِيْمُ يَا مُقِيْمُ

اے باطن اے قدیم اے پختہ کار اے مقیم

يَا نُورُ يَا هَادِي يَا بَدِيْعُ يَا بَاقِي

اے نور اے ہادی اے پیدا کرنے والے اے باقی

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا

اے صاحب جلال اور عظمت انعام عام کے تیرے سوا کوئی عبادت کے

أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَعِيْثُ يَا غِيَاثُ

لائیق نہیں ہم تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتے ہیں اے فریادیوں

الْمُسْتَعِيْثِيْنَ اَعْتَنَاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

کے فریاد رس ہماری فریاد سن تیرے سوا کوئی مجھو برحق نہیں

بِرَحْمَتِكَ اِرْحَمْنَا اللَّهُمَّ مَحْرَكَ

اپنی رحمت کے طفیل ہم پر رحمت فرما اے اللہ تحریک دینے والے

الْحَرَكَاتِ وَمُبْدِيْ نِهَآيَاتِ الْغَايَاتِ

تمام حرکات کے اور تمام مقاصد کے انتہاء کو شروع کرنے والے

وَمُخْرِجِ بِنَابِيْعِ قَضِيْبَانِ قَضِيْبَاتِ

اور زمین سے چٹھے نکلنے والے لوٹیوں کی شاخیں اگانے والے

النَّبَاتِ وَمَشَقِّ صِعْجِ لَامِيدِ الصُّخْرِ

اور اے اللہ ٹھوس اور سخت پتھروں اور محکم پہاڑوں کے

الرَّاسِيَاتِ وَالْمُنْبِعِ مِنْهَا مَاءٌ مَّعِينًا

پھاڑنے والے اور ان میں سے مخلوقات کے لئے یہ مسطح پانی کے

لِلْمَخْلُوقَاتِ وَالْمُحْيِي بِهٖ سَائِرَ

جتنے نکالنے والے اور اس پانی سے تمام جانداروں

الْحَيَوَانَاتِ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْعَالَمِ

اور بوٹیوں کے زندہ کرنے والے اور اے

بِنَا الْخُلُجِ فِي صُدُورِهِمْ مِنْ أَسْرَارِهِمْ

لوگوں کے سینوں کے بھیدوں اور فکروں کے

وَأَفْكَارِهِمْ وَفَكَرْمُزِنُطِقِ إِشَارَاتِ

جاننے والے اور باریک رمز و اشارے زمین پر چلنے

خَفِيَّاتِ لُغَاتِ النَّمْلِ السَّارِحَاتِ

والی چوٹیوں کے لگتوں اور بولیوں کے سمجھنے والے

يَا مَنْ سَبَّحَتْ وَقَدَّسَتْ وَعَظَّمَتْ

اے وہ پاک ذات کہ تیری سبوحیں بیان کیں اور تجھے پاکی سے یاد کیا

وَكَبَّرَتْ وَمَجَّدَتْ لِجَلَالِ جَمَالِ

اور تیری عظمت بیان کی اور تجھے بڑائی سے یاد کیا اور تیری بزرگی بیان کی

كَمَالِ أَقْدَامِ أَقْوَالِ اعْظَامِ عِزَّةِ

ساتھ بزرگی خوبصورتی کمال پیش رو اقوال بڑے بڑے کے جو تیری عزت

وَجَبَرُوتِهِ مَلِكُ سَبْعِ سَمَوَاتِكَ

اور جبروت کے لائق ہیں سات آسمانوں کے فرشتوں نے

اجْعَلْنَا فِي هَذَا الْعَامِ وَفِي هَذَا الشَّهْرِ

کردے ہم کو اس سال اور اس مہینہ

وَفِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَفِي هَذَا الْيَوْمِ

اور اس جمعہ اور اس دن

وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي هَذَا الْوَقْتِ

اور اس ساعت اور اس وقت

الْمُبَارَكِ مِمَّنْ دَعَاكَ فَاجَبْتَهُ

مبارک میں ان لوگوں میں سے جن کی دعا قبول کرتا ہے

وَسَأَلَكَ فَأَعْطَيْتَهُ وَتَضَرَّعَ إِلَيْكَ

اور جو سوال کرے عطا کرتا ہے اور ان کی عاجزی پر

فَرِحْتَهُ، وَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ أَدْنَيْتَهُ،

رحم کرتا ہے اور اپنی سلامتی کے گھر میں ان کو پہنچاتا ہے

بِفَضْلِكَ يَا جَوَادُ يَا جَوَادُ يَا جَوَادُ

اپنے فضل سے اے سخی اے سخی اے سخی

جُدُّ عَلَيْنَا وَعَامِلُنَا بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ،

ہم پر سخاوت کر اور ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جس کے تو لائق ہے

وَلَا تُقَابِلْنَا بِمَا نَحْنُ أَهْلُهُ، إِنَّكَ

اور اس بات کی ہم پر گرفت نہ کر جس کے ہم لائق ہیں تو ہی

أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

پر ایزگاری اور بخشش کے لائق ہے

يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

اے تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان اے اللہ اے اللہ

يَا اللَّهُ يَا أَوَّلَ يَا آخِرَ يَا ظَاهِرَ

اے اللہ اے اول اے آخر اے ظاہر

يَا بَاطِنَ يَا قَدِيمَ يَا قَوِيمَ يَا مُقِيمَ

اے باطن اے قدیم اے قائم اے مقیم

يَا نُورُ يَا هَادِي يَا بَدِيْعُ يَا بَاقِي ط

اے نور اے ہادی اے بید کرنے والے اے باقی

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط لَا إِلَهَ إِلَّا

اے صاحب جلال اور عظمت کے تیرے سوا کوئی معبود برحق

أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَعِيْثُ ط يَا غِيَاثَ

نہیں ہم تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتے ہیں اے فریاد کرنے والوں

الْمُسْتَعِيْثِيْنَ ط اَعْتَنَاهُ ط لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

کی فریاد سننے والے ہماری فریاد سن تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں

وَبِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِيْنَ ط أَسْأَلُكَ

اور ساتھ تیری رحمت کے اے زیادہ مہربان رحمت کرنے والوں سے ہم سوال کرتے ہیں

اللَّهُمَّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ یہ کہ رحمت بھیجے تو اور ہمارے سردار محمد

وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ تَقْضِيَ

اور اسکی آل اور اسکے اصحاب پر اور سلام بھیج تو اور یہ کہ ہماری

حَوَائِجِنَا يَا اللَّهُ ط يَا اللَّهُ ط يَا اللَّهُ ط

حاجتیں پوری کر اے اللہ اے اللہ اے اللہ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

اور سب تعریفیں اللہ جہانوں کے پروردگار کو لائق ہیں

وَرَدِ رَوْزِ شَنِبِہ (ہفتہ)

ہفتہ کے روز کا وظیفہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ يَا مَنْ نَعْمَهُ لَا تُحْصَى ط

اے اللہ اے وہ ذات کہ اس کی نعمتیں کوئی نہیں گن سکتا

وَأَمْرُهُ لَا يُعْصَى ط وَتُورُهُ لَا يُطْفَى ط

اور اس کے امر کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا اور اس کا نور بجھ نہیں سکتا

وَأُطْفِئُهُ لَا يُخْفَى ط يَا مَنْ فَلَقَ

اور اس کا لطف پوشیدہ نہیں رہ سکتا اے وہ ذات کہ جس نے

الْبَحْرَ لِيُوسِيَ ط وَأَحْيَى الْمَيِّتَ لِعِيسَى ط

حضرت یوسی کے لیے دریا میں راستہ کر دیا اور حضرت عیسیٰ کے لئے مردہ زندہ کر دیئے

وَجَعَلَ النَّاسَ يَرُدُّونَ سَلَامًا عَلَيَّ

اور حضرت ابراہیم کے لئے آگ کو سرد اور سلامت کر دیا

إِبْرَاهِيمَ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رحمت نازل کر اُوپر ہمارے سردار محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ

اور ہمارے سردار محمد کی آل پر اور کر ہمارے

لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَمَخْرَجًا

لئے اپنے امر کو خوشی اور خلاصی کا باعث بنا

اللَّهُمَّ بِتِلْكَ نُورٍ بِهَا حُجُبٌ

اے اللہ بہ طفیل بہمکار نور پردوں

عَرُشِكَ مِنْ أَعْدَائِي اِحْتَجِبْتُ

عرش تیرے کے میں اپنے دشمنوں سے پردہ مانگتا ہوں

وَبِسُطُوَّةِ الْجَبْرُوتِ مَنَّ يَكِيدُنِي

اور طفیل غلبہ جلالیت کے جو مجھ سے فریب کرے

تَحَصَّنْتُ وَبِحَوْلِ طَوْلِ جَوْلِ

اس سے قلعہ گیر ہوں اور ساتھ برکت طاقت غلبہ حملے

شَدِيدِ قُوَّتِكَ مِنْ كُلِّ سُلْطَانٍ

شدید قوت تیری کے ہر ایک بادشاہ سے

تَحَصَّنْتُ وَبَدَّ يَوْمَ قِيَوْمٍ دَامَ

قلعہ گیر ہوتا ہوں اور ساتھ برکت ہمیشگی قائم رہنے والے دوام

أَبْدِيَّتِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ اسْتَعَدْتُ

ابدیت تیری کے ہر ایک شیطان سے میں نے پناہ مانگی

وَيَبْكَتُونَ السِّرِّ مِنَ السِّرِّ كَرَّ مِنْ

اور ساتھ برکت پوشیدہ اور پوشیدہ بھید تیرے کے

كُلِّ هَامَّةٍ تَخَلَّصْتُ وَتَحَصَّنْتُ

میں ہر ایک شیطان سے خلاص اور قلعہ گیر ہوا

يَا حَامِلَ الْعَرْشِ عَنِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ

اے عرش کے اٹھانے والے حاملان عرش سے

يَا حَابِسَ الْوَحْشِ يَا شَدِيدَ الْبَطْشِ

اے بند کرنے والے وحشت کے اے شدید حملے والے

عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ

تجھ پر میں نے توکل کیا اور تیری طرف میں رجوع

أَحْبَسَ عَنِّي مَنْ ظَلَمَنِي وَأَغْلَبَ

لا یا مجھ سے ظالموں کو بند کر اور جو مجھ پر غالب ہے

عَلَىٰ مَنْ غَلَبَنِي كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَّ

اس پر تو غلبہ کر اللہ نے لکھ دیا البتہ میں ضرور غالب

أَنَا وَسُرَّيِّي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

ہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے تحقیق اللہ قوت والا غالب ہے

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے

وَأَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا اللَّهُ

اور اپنی تمام خلقت سے بڑی عزت والا ہے اللہ

أَعَزُّ مِمَّنْ أَخَافُ وَأَحْذَرُ أَعُوذُ

بڑا غالب ہے اس سے جس سے میں خوف کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں پناہ

بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُمْسِكُ

مانگتا ہوں ساتھ اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے

السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ تَقَعَ عَلَىٰ

سات آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روک رکھا

الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ

ہے مگر اس کے اذن سے شر بندے تیرے فلاں

فُلَانٍ وَجُنُودِهِ وَاتِّبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ

سے اور اس کے لشکروں اور تابعداروں اور فرمانبرداروں

مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ

جنوں سے اور آدمیوں سے اے اللہ

كُنْ لِي جَارًا مِّنْ شَرِّهِمْ جَمِيعًا

تو میرے پیڑوس میں ہو جا ان تمام کے شر سے

جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ

تیری صفت بزرگ اور تیرا پیڑوس عزت والا ہے اور تیرا نام

اسْمُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ تَفَعَّلُ

برکت والا اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو جو

مَا تَشَاءُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ

چاہے کر سکتا ہے اور تو ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

قادر ہے اور سب تعریف اللہ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

پروردگار جہانوں کے لائق ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

حِزْبُ الْبَحْرِ

پڑھنے کا طریقہ

دُعائے حزب البحر تمام دینی و دنیوی حاجات کے واسطے نہایت
مجزب اور اکیسر ہے اور اس کے پڑھنے کے تین طریقے ہیں :

○ پہلا طریقہ

پہلا طریقہ یہ ہے کہ : بہ ترک حیوانات جلالی و جمالی و اعتکاف
و خلوت و صوم روز چہار شنبہ و پنج شنبہ و جمعہ و عروج ماہ بظہارت
کامل ظاہری و باطنی اس دعا کو مع اعتصام و اختتام و وسیلہ
کے بلحاظ جملہ ارشادات تین روز تک ہر روز ایک سو بیس بار پڑھے،
اور اسی مقدار میں ہر روز درود شریف بھی پڑھے اور
مگر تیسرے روز ایک سو پچیس بار پڑھے تاکہ تین سو بیس کی
عددی تکمیل ہو جائے۔

دوسرا طریقہ

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ: یہ تعداد بر غایت جملہ شرائط مندرجہ بالا کے پھر روز میں پورا کرے، یعنی پہلے پانچ روز ساٹھ ساٹھ بار اور چھٹے روز بیسٹھ بار پڑھے۔

تیسرا طریقہ

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ: یہ پابندی تمام شرائط مصرحہ الصدور بارہ روز میں پورا کرے کہ ہر روز تیس بار پڑھے اور آخری روز بیسٹھ بار پڑھے۔ اور سب سے زیادہ پہلے اور آسان طریقہ یہ ہے کہ بعد حصول اجازت ہر روز بلا ناغہ نماز صبح اور نماز عصر کے بعد ایک ایک بار نہایت توجہ اور احتیاط سے پڑھ لیا کرے اور کبھی ناغہ نہ کرے۔

دعوت کے بعد جس مقصد کے لئے چاہے تین رات دن متواتر بلحاظ شرائط پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ مگر جس مطلب کے واسطے پڑھے اسی مضمون کے فقرہ پر خیال کر کے پڑھتے وقت اسی کا تصور کر کے تکرار کرے۔ چنانچہ ذیل میں چند ترکیبیں اس کے متعلق درج ہوتی ہیں:

حل مشکلات

حل مشکلات کے واسطے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ:

اگر کوئی سخت مشکل آنے پڑے اور حالت اضطراری لاحق ہو جائے تو چاہیے کہ بمقام خلوت بعد نماز عصر کے بلا کلام اس دعا کو بلا تعداد کے نماز مغرب تک پڑھے اور جب مغرب کی اذان ہو تو سجدہ کرے اور سجدہ میں اپنی حاجت طلب کرے اور جب اَللّٰهُمَّ یَسِّرْ لَنَا اُمُورَنَا پر پہنچے تو اس جملہ کو گیارہ بار تکرار کرے اور مطلب کو اپنے ذہن میں رکھ کر گیارہ بار پڑھے :

يَا مُيسِّرُ كُلِّ عُسْرٍ

اسی طرح تین روز تک یہ عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ وہ مشکل حل ہو جائے گی اور اس کی عام اجازت ہے۔

شفائے مریض

شفائے مریض کے واسطے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ :

اگر کوئی مریض کسی علاج سے صحت یاب نہ ہو سکے تو اس کو چاہیے کہ ہر روز گیارہ بار پڑھے، لیکن جب :

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ الْخَرِيصَ

پر پہنچے تو ستر بار یہ پڑھے :

وَنُنزِلُ مِنَ الْقِيَامِ اِنْ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ

لِلْمُؤْمِنِيْنَ ط انشاء اللہ العزیز تھوڑے ہی دنوں میں

صحت کلی ہو جائے گی اور اس کی عام اجازت ہے۔

محبت اور تسخیرِ خلائق

محبت اور تسخیرِ خلائق کے لئے اس کو ہر روز گیارہ مرتبہ پڑھنا چاہیے اور سَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ بِرُتُوبٍ عَلَّ مَطْلَبِ كَابِرٍ اِبْرَہِیْمَ اور اِلَيْهِ تَرْجَعُونَ کے بعد یَا عَزِيزُ عَزَّرْنِي فِي اَعْيُنِ النَّاسِ ایک سو پانچ بار پڑھے۔

انشاء اللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دنوں میں مراد بر آئے گی۔ لیکن اجازت شرط ہے۔

دائے قرضہ اور دفع فقر و فاقہ کے واسطے

اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرض میں غرق ہو اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک وقت خاص مقرر کر کے متواتر تین روز تک یہ دُعا ہر روز سات بار پڑھے، جب وَاِسْرُفْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْمُرْسَلِيْنَ طیر پہنچے تو گیارہ بار اس جملہ کو تکرار کر کے اور ستر بار یہ دُعا پڑھے:

اللّٰهُمَّ اغْنِنِي بِحِلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ
بِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ
سِوَاكَ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ

وَالْحُزْنَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

انشاء اللہ العزیز تھوڑے ہی عرصہ میں قرض سے رہائی اور
کٹا نش رزق ہو جائے گی۔
لیکن اجازت شرط ہے!

دشمنوں کی ہلاکت اور زبان بندی کے واسطے

اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ :
ہر روز اکیس بار جب **وَاطْمِئِنَّ عَلَىٰ وَجْوهِ اَعْدَائِنَا** پر
پہنچے تو ۴ بار یہ پڑھے :

يَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ اَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ
يَا قَاهِرُ اور بعد **حَمْدِ ششم** کے ادعیہ مقہوری اعداء بھی ضرور پڑھئے۔
انشاء اللہ العزیز ایک ہی جگہ میں دشمن ہلاک ہو جائے گا،
اور اس متبرک حزب کے پڑھنے والے پر لازم ہے کہ ہمیشہ پابند
صوم و صلوٰۃ رہ کر با وضو نہایت عاجزی و اخلاص قلبی سے اسے کا ورد
بلاتا غر روزانہ رکھے۔

اس کی برکت سے جملہ مرادیں حاصل ہوتے گی اور دار عقبیٰ کے واسطے
بھی یہ بہترین زاویہ و توشہ ہے۔

وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ

اِعْتَصَامِ حِزْبِ الْبَحْرِ

اعتصام حزب البحر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اِعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ الْفَتَّاحِ الْقَابِضِ

میں نے پناہ لی ساتھ نام اللہ کھولنے والے بند کرنے والے کے

اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنْ

میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ نام اللہ سننے والے جانتے والے کے

الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝

شیطان مردود سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ حَبِیْبَكَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ

اے اللہ عطا کر اپنی دوستی جو زیادہ محبوب ہو مجھے میرے

نَفْسِیْ وَسَعِیْ وَبَصْرِیْ وَاهْلِیْ وَ

نفس اور میرے کام اور میری آنکھ اور میرے اہل اور

مَا لِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِّلْعَطْشَانِ

میرے مال اور ٹھنڈے پانی سے جو پیاسوں کو خوشگوار ہے

سَبَّارَ اللّٰهِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

(تین بار) اے اللہ درود صحیح اوپر سردار ہمارے

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد کے اور اوپر اولاد سردار ہمارے حضرت محمد

بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مِّمَّا عَشَرَ اَلْفًا

کے ساتھ تعداد ہر ذرہ کے دس

اَلْفِ مَرَّةٍ (ہفت بار)

کروڑ بار (سات بار)

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے شیطان مردود سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ

ہر طرف اللہ ہی کو تزیبا ہے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا بڑا مہربان

الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ

نہایت رحم والا مالک ہے روزِ جزاء کا تیری ہی

نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں دکھا ہم کو

الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

راستہ سیدھا راستہ اُن لوگوں کا جن پر تو نے فضل کیا

عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

نہ اُن کا جن پر تیرا غضب ہوا ہے

وَالضَّالِّينَ ۝ اٰمِيْنَ ۝

اور نہ بہکنے والوں کا آمین

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں کوئی معبود اس کے سوا ہمیشہ زندہ سب کا تقاضے

لَا يَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۝ لَ مَا فِي

والا ہے اس کو نہیں آتی اونگھ اور نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنَ ذَ الَّذِي

آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ایسا کون ہے جو

يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط يَعْلَمُ مَا

سفارش کرے اس کی جناب میں بغیر اسکی اجازت کے وہ جانتا ہے جو

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ

کچھ خلق کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور نہیں احاطہ کر سکتے

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ

کسی چیز کا اس کی معلومات سے مگر جتنا وہ چاہے گھیرے

كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا

ہوتے ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو اور نہیں

يُودَهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

گراں گزرتی اسکو ان کی حفاظت اور وہ عالی شان عظمت والا ہے

لَا أَكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَفْلًا قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ

نہیں زبردستی دین کے بارے میں بے شک ظاہر ہو چکی ہدایت

مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ

گمراہی سے تو جو شر مانے بتوں کو اور

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

ایمان لائے اللہ پر تو بے شک اس نے پکڑ لی

الْوَثْقَىٰ لَا أَنْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ

رسی مضبوط جو ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ سُننے والا

عَلِيمٌ ۝ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

جاننے والا ہے اللہ اُن کا حامی ہے جو ایمان لائے

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

نکالتا ہے اُن کو اندھیروں سے اُجالے کی طرف

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ

اور جو لوگ کافر ہیں رفیق اُن کے شیطان ہیں

يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

جو نکالتے ہیں اُن کو اُجالے سے اندھیروں کی طرف

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

یہی لوگ دوزخی ہیں اور اسی میں ہمیشہ

خَالِدُونَ ۝ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن

رہیں گے پھر اللہ نے اتاری تم پر اس غم کے

بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ

بعد حالت اطمینان یعنی اونگھ کر گھیر رہی تھی

طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهْتَمْتُمْ

ہمارے ایک گروہ کو اور وہ گروہ جن کو اپنی جانوں کی

أَنْفُسِهِمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ

پرٹی مانتی بدگمانیاں کرتے تھے ساتھ اللہ کے ناحق

ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا

جاہلیت کی سی بدگمانیاں کہتے تھے کہ ہمارے بس کی

مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ

کیا بات ہے کہہ دے کہ سب کام اللہ ہی

كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا

کے اختیار میں ہے یہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں جو نہیں

يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ

ظاہر کرنے تجھ سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اختیار میں

الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلْنَا هُنَا قُلْ لَوْ

بکچھ ہوتا تو نہ مارے جاتے ہم یہاں کہہ دے کہ اگر

كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لِيرَزَّ الَّذِينَ كُتِبَ

تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو بھی آسکتے وہ لوگ جن پر

عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَج

مرا جانا لکھا جا چکا تھا اپنے اپنے بچھڑنے کی جگہ اور

لِيُبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُخَيَّرَ

تاکہ آزمائے اللہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور تاکہ تمہارے ان خیالات

مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

کو جو تمہارے دلوں میں ہیں اور اللہ جانتا ہے دلوں

الصُّدُورِ ۝ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ

کی بات محمد اللہ کا رسول ہے اور جو لوگ اس

مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رِجْمًا وَبَيْنَهُمْ

کے ساتھ ہیں وہ سخت ہیں کافروں پر نرم دل ہیں آپس میں تو ان کو

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا

دیکھتا ہے رکوع کر نیولے سجدہ کرنے والے طلب کرتے ہیں فضل

مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سَيِّئًا هُمْ فِي

اللہ کا اور خوشنودی ان کی نشانی ان کے

وَجُوهِهِمْ مِنَ اثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ

چہروں پر ہے سجدہ کے اثر سے یہی ان کی

مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ مِثْلُ نَجْمٍ فَازِرَةٍ

صفت ہے تورات میں اور ان کی صفت

الْأَنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ

انجیل میں جیسے کھیتی کہ اس نے نکالی اپنی سوئی پھر سوئی

فَأَسْتَعْلَظَ فَاَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوَاقِهِ يُعْجَبُ

کو قوی کیا تو وہ موٹی ہو گئی پھر سیدھی ہو گئی اپنی بڑی پھر خوش کرنے

الذُّرِّاءَ لِيَغْضِبَ بِهِمُ الْكَافِرَ وَعَدَّ

لگی کسانوں کو تاکہ اللہ جی جلائے مسلمانوں کے سبب کافروں کا اور اللہ

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے

مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

مغفرت کا اور اجر عظیم کا

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جاننے والا

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

غیب اور حاضر کا وہ نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں باوٹا ہے

الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ

پاک ذات ہے سلامت ہے امن دینے والا ہے نگہبان ہے

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ

زبردست ہے خود مختار ہے تکبر والا ہے اللہ پاک ہے ان کے

عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ

شریک ٹھہرانے سے وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا

الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

موجد صورتیں بنانے والا اسی کے سب نام اچھے ہیں

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اسی کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

اور وہ زبردست حکمت والا ہے

الف با تا ث جیم حان خا

ا ب ث ت ج ح خ

دُعَاة حِزْبِ الْبَحْرِ ط

دُعَاة حِزْبِ الْبَحْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا عَلِيُّ يَا

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے بلند مرتبہ اے

عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ أَنْتَ رَبِّي

بزرگ تبار اے بڑو بار اے جاننے والے تو میرا پروردگار

وَعِلْمُكَ حَسْبِي فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّي

اور تیرا علم میرے لئے کافی ہے پس کیا اچھا ہے میرا پروردگار پالنے والا

وَنِعْمَ الْحَسْبُ حَسْبِي تَنْصُرُ مَنْ

اور کیا خوب کفایت کرتے والا ہے میرا کفایت کرنے والا تو فتح دیتا ہے

نَسَاءُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

جس کو چاہے اور تو غالب ہے مہربان ہے اے اللہ

إِنَّا نَسُوكَ الْعِصْمَةَ فِي الْحَرَكَاتِ

تحقیق یہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اپنا بچنا۔۔۔ تمام حرکات

وَالسَّكِنَاتِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْإِرَادَاتِ

اور سکناات اور تمام باتوں اور ارادوں

وَالْخَطَرَاتِ مِنَ الظُّنُونِ وَالشُّكُوكِ

اور خطروں میں گمانوں اور شکوں

وَالْأَوْهَامِ السَّائِرَةِ لِقُلُوبِ عَنِ

اور وہوں سے جو ڈھانکنے والے ہیں دلوں کے

مُطَالَعَةِ الْغُيُوبِ فَقَدْ ابْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ

معاذ نبیہ غیب سے پس تحقیق آزمائے گئے ہیں ایمان والے

وَنُزُلُوا زُلُومًا شَدِيدًا طَرَفًا

اور ہلا دیئے گئے ہلا دینا سخت (اس جگہ

انگشتِ سبابہ دستِ راست اشارہ جانب

دائیں ہاتھ کی انگلی سبابہ سے آسمان کی طرف

آسْمَانٍ بَكْرًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ

اشارہ کرے) اور اس وقت کہتے ہیں منافق اور وہ لوگ

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ

جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ہم کو وعدہ نہیں دیا اللہ سے

وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝ فَثَبِّتْنَا (سہ بار)

اور رسول کے مگر بطریق دھوکہ کے پس ہم کو ثابت قدم رکھ (بہن بار پڑھے)

مطلب خود نگہ بردار دیریں جا این جملہ دعا بخواند

مطلب اپنا نگاہ رکھے اس جگہ یہ دعا پڑھے

عَلَىٰ أُمُورِ الشَّرِيعَةِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

اوپر امور شریعت کے اے خداوند مجھے باعزت دکھا

عَزِيزًا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ وَذَلِيلًا

لوگوں کی آنکھوں میں اور ذلیل دکھا

فِي عَيْنِي وَأَنْصُرْنَا (سہ بار) مطلب خود

میری آنکھ میں اور مدد کر (بہن بار) اس جگہ پڑھے

نگہ بردار دیریں جا بخواند عَلَىٰ جَمِيعِ الْخَلْقِ

اور مطلب نگاہ رکھے جملہ مخلوقات کے

وَسَخِّرْ لَنَا هَذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ

اور فرمان بردار کر ہمارے لئے اس دریا کو جیسا کہ فرمان بردار کیا تو نے

الْبَحْرَ لِسَيِّدِنَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ

دریا کو واسطے سردار ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے

وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

اور تو نے مسخر کیا آگ کو واسطے سردار ہمارے ابراہیم

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ

علیہ السلام کے اور تو نے مسخر کیا پہاڑوں کو

وَالْحَدِيدَ لِسَيِّدِنَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور لوہے کو واسطے سردار ہمارے داؤد علیہ السلام کے

وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيْطَانَ وَالْجِنَّ

اور تو نے مسخر کیا ہواؤں اور شیطانوں اور جنوں

وَالْإِنْسَ لِسَيِّدِنَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور انسانوں کو واسطے سردار ہمارے سلیمان علیہ السلام کے

وَسَخَّرْتَ الْمُلْكَ وَالْمَلَكُوتَ وَالْعَوَالِمَ

اور تو نے مسخر کیا ملک اور ملکوت اور عالم تمام کو

مُلْهَا لِسَيِّدِنَا وَنَبِينِنَا وَشَفِيعِنَا وَ

واسطے سردار ہمارے اور نبی ہمارے اور شفیع ہمارے اور

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

مولا ہمارے محمد کے اُمیر ان کے درود و سلام

وَرَحْمَةً اللّٰهِ وَبَرَكَاتِهِ وَسَخِرْنَا كُلَّ

اور رحمت اللہ کی اور برکتیں ہوں اور مسخر کر تو واسطے ہمارے

وَزَيْرٍ وَآمِيرٍ وَرَعِيْتَةٍ وَسَخِرْنَا كُلَّ

ہر ایک وزیر اور امیر اور رعیت کو اور مسخر کر تو واسطے ہمارے

بِرٍّ وَفَاسِقٍ وَفَاجِرٍ وَسَخِرْنَا كُلَّ

ہر ایک نیکو کار اور فاسق اور بد کردار اور مسخر کر تو واسطے ہمارے

بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ

ہر دریا کو کہ واسطے تیرے ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں

وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرِ الدُّنْيَا

اور ملک اور ملکوت میں اور دریائے دنیا

وَبَحْرِ الْاٰخِرَةِ وَسَخِرْنَا كُلَّ شَيْءٍ

اور دریائے آخرت کو اور مسخر کر تو واسطے ہمارے ہر چیز کو

يَا مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ

اے وہ ذات کہ اس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی اور اسی کی

يَرْجِعُونَ بِحَقِّ كَهَيْعَتِ الْبَارِ

طرف بازگشت ہے برکت کہ ہر ایک کے (تین بار پڑھے)

بخواند بار اول انگشت ہاتے ہر دو دست از

دونوں ہاتھ کی انگلیاں پھنگلیا سے

انگشت خنصر بترتیب بند نماید و بار دوم بترتیب

ترتیب وار بند کرے اور دوسری بار بالترتیب

کشايد و بار سوم بترتیب بند نماید فانصرنا فانك

کھولے اور تیسری بار بالترتیب بند کرے پس مدد دے ہم کو کیونکہ تو

خَيْرُ النَّاصِرِينَ ○ ہر دو انگشت بہام بکشايد

بہترین مدد دینے والا ہے (دونوں انگلیوں کو کھولے)

وَأَفْتَحْ لَنَا فَانِكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ○

اور کھول دے واسطے ہمارے کیونکہ تو بہترین کھولنے والا ہے

ہر دو انگشت سبابہ بکشايد وَاغْفِرْ لَنَا فَانِكَ

(دونوں سبابہ انگلیاں کھولے) اور بخش تو ہم کو

خَيْرُ الْغَفِرِينَ ○ ہر دو انگشت وسطی بکشايد

تو بہترین بخشنے والا ہے (دونوں درمیانی انگلیاں کھول لے)

وَأَرْحَمْنَا فَانِكَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ○

اور رحم کر ہم پر کیونکہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے

ہر دو انگشت بنصر بکشاید وَاَرْضُ قَنَا فَاِنَّكَ

(دونوں بنصر (دوسری) انگلیاں کھولے) اور رزق دے ہم کو

خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ ○ ہر دو انگشت بنصر بکشاید

کیونکہ تو بہترین روزی دینے والا ہے (دونوں چھانگلیاں انگلیاں کھولے)

وَاحْفَظْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِيْنَ ○

اور نگاہ رکھ ہم کو کیونکہ تو بہترین نگہبان ہے

ہر دو دست بررون از سر تا پا فرود آرد وَاَهْدِنَا

(دونوں ہاتھوں کو سر سے لے کر پاؤں تک لے جائے) اور راہ دکھا ہم کو

وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ○ وَهَبْ

اور نجات دے ہم کو ظالموں کی قوم سے اور بخش

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رِيْحًا طَيِّبَةً كَمَا هِيَ

واسطے ہمارے اپنے پاس سے ہوائے خوش جیسا کہ وہ

فِي عِلْمِكَ وَاَنْشُرْنَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ

تیرے علم میں ہے اور پھیلا دے اس کو ہم پر اپنی رحمت کے

رَحْمَتِكَ نَظْرُ السُّوْمَةِ السَّمَانِ كُنْدًا وَاَحْمِلْنَا

خزانوں سے (نظر آسمان کی طرف کرے) اور اٹھا ہم کو

بِهَا حَمْلَ الْكِرَامَةِ مَعَ السَّلَامَةِ

ساتھ اس کے اٹھانا بزرگی کا ساتھ سلامتی

وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور عافیت کے دین اور دنیا اور آخرت میں

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اللَّهُمَّ

تحقیق تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے اے اللہ

يَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا سَهْلًا بِأَنَّ تَصَوُّرَ مَطْلَبِ خَوْفِ بِنَاظِرَةِ

آسان کرے واسطے ہمارے کاموں کو (بہن بار دل میں اپنے مطلب کا تصور کرے)

مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَ

ساتھ راحت کے واسطے ہمارے دلوں اور ہمارے بدنوں کو اور

السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا

ساتھ سلامتی اور عافیت کے بیچ ہمارے دین اور دنیا کے

وَكَوْنُ لَنَا صَاحِبًا فِي سَفَرِنَا وَخَلِيفَةً

اور ہو واسطے ہمارے ہم نشین ہمارے سفر میں اور خلیفہ

فِي أَهْلِنَا وَمُعِينًا وَحَامِيًا فِي حَضْرَتِنَا

ہمارے اہل میں اور مددگار اور حامی ہمارے گھر میں

وَاطْمِئِنَّ عَلَىٰ وَجْهِهِ اَعْدَانَا (سہ بار)

اور مٹادے ہمارے دشمنوں کے منہ (تین بار)

ہر دو دست بزور بر زمین زند و مقہوری اعداء تصور کند

دونوں ہاتھ زور سے زمین پر مارے اور مقہوری اعداء کا خیال کرے

وَامْسُخِمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ (سہ بار ہر دو)

اور مسخ کر دے تو ان کو اوپر جگہ اپنی کے (تین بار دونوں)

دست بزور بر زمین زند و مقہوری اعداء تصور کند

ہاتھ زور سے زمین پر مارے اور مقہوری اعداء کا خیال کرے

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمَضِيَّ وَلَا الْمَبْعِيَّ

پھرنہ وہ سکیں گے گورنار کسی طرف کو اور نہ سکیں آنا

اَلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ

ہماری طرف اور اگر ہم چاہیں البتہ مٹادیں ان کی آنکھوں کو

فَاَسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنِي يَبْصُرُونَ

پس آگے بکڑیں گے ایک راہ پس کہاں سے دیکھیں گے

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ

اور اگر ہم چاہیں البتہ مسخ کر دیں ہم اوپر جگہ ان کی کے

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝

پس نہ سکیں گے گزرنا اور نہ پھریں گے

يَس ۝ يَس ۝ يَس ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝

اے سردار اے سردار اے سردار قسم سے قرآن حکیم کی

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَى صِرَاطِ

بے شک تو پیغمبروں میں ہے سیدھے

مُسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

راستے پر اتارا ہوا ہے غالب مہربان کا

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ

تو کہ تو ڈرائے لوگوں کو نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا پس وہ

غٰفِلُونَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ

غافل ہیں البتہ ثابت ہو چکا قول ان میں سے اکثر پر

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِي

تو وہ نہیں مانتے گئے تحقیق ہم نے ڈال دیئے ہیں

أَعْيُنَهُمْ أَغْلًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ

گردنوں ان کی ہیں طوق پس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں

فَهُمْ مَقْرُونُونَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ

وہ سر او بچا کئے ہوئے ہیں اور ہم نے بنا دی ہیں

أَيْدِيهِمْ سَدًّا ۝ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ۝

ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار

فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

اور پھر اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے تو ان کو سوچتا نہیں

شَاهَتِ الْوُجُوهُ (۳ بار) ہر دو دست بزور

بد شکل اور سواہٹوں سے منہ دشمنوں کے (تین بار) دونوں ہاتھ زور سے

بِرِزْمِينَ زَنْدًا وَمَخْزُولِي ۝ اَعْدَاءِ تَصَوَّرَ كَنْدًا وَعَنْتِ

زمین پر مارے اور دشمن کی خرابی کا تصور کرنے اور ذلیل ہو گئے

الْوُجُوهُ (۳ بار) ہر دو مشت بزور بر زمین زند

منہ دشمنوں کے (تین بار) دونوں ہاتھ زور سے زمین پر مارے

وَمَخْزُولِي ۝ اَعْدَاءِ تَصَوَّرَ كَنْدًا لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۝

اور دشمن کی تباہی کا تصور کرے واسطے زندہ قائم رہنے والے کے اور

قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (۳ بار)

تحقیق: ناکام رہا وہ شخص کہ اس نے اٹھایا ظلم کو (تین بار)

ہر دو دست بجانب اعدا و وقف زند طہ

(دونوں ہاتھ دشمن کی طرف مارے اور تھوکے) طہ

طسم انگشت ہائے ہر دو دست بترتیب بند

طسم (دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ترتیب سے بند

نماید حم عشق انگشت ہائے ہر دو دست

کرے) حم عشق (دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو

بترتیب بکشاید مریج البحرین یلتقین

ترتیب سے کھولے) اس نے چلا دیئے دو سمندر کہ ملتے ہیں

بَیْنَهُمَا بَرَزَخٌ ۙ لَا يَبْغِيْنَ ۝ حَم

ان کے درمیان ایک پردہ ہے کہ ایکے دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا

پیش گوید حم پس گوید حم جانب دست

آگے کہے حم پیچھے کہے حم دائیں طرف

گوید حم جانب چپ گوید حم جانب

کہے حم بائیں طرف کہے حم اوپر کی

بالا گوید حم جانب زیر گوید حم ششم

طرف کہے حم نیچے کی طرف کہے چھٹی حم کہے

اِس دُعَا بِخَوَانِدَ دَفَعْتُ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى

بعد یہ دعا پڑھے دفع کی میں نے ساتھ حکم اللہ تعالیٰ

كُلِّ بَلَاءٍ وَقَضَاءٍ يُجِيءُ مِنْ هَذِهِ

کے ہر بلا اور قضاء جو آئی ہیں ان

الْجِهَاتِ السِّتَّةِ بِأَمْنٍ بِإِذْنِ اللَّهِ

اطراف ستہ سے امان پاؤں میں ساتھ اذن اللہ

تَعَالَى مِنْ جَمِيعِ الْأَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ

تعالیٰ کے ہر آفت اور بلا سے

حَمْدًا مَفْتُمًا بِرِهْرٍ وَدِلَّتْ خَوَانِدَ بَرِيءٍ وَبَدَنٍ اَز

حکم ساتویں ہر دونوں ہاتھ پر پڑھ کر اپنے چہرے اور بدن پر

سَرْتَا يَأْفِرُ وَآرِدُ وَاكْرِبُ اِلَى مَقْهُورِيْ اَعْدَاءِ بِخَوَانِدَ

سر سے پاؤں تک لاوے اور اگر واسطے مقہوری اعداء کے پڑھے بعد

حَمْدًا شَشْمًا اِدْعِيْهِ مَقْهُورِيْ اَعْدَاءِ نِيْزِ خَوَانِدَ حَمْدًا

حکم چھٹی کے دعاء مقہوری اعداء بھی پڑھے گرم ہوا

اَلَمْ مَرُّوْا جَاءَ النَّصْرُ فَعَلَيْنَا الْاِيْنَصْرُوْنَ ۝

کام اور آگئی مدد خدا تعالیٰ کی پس ہم پر فتح یاب نہ ہوں گے

حَمْزٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ

حَمْز اتارنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝ غَافِرُ الذُّنُوبِ ۝

جو زبردست علم والا ہے بخشنے والا گناہوں کا اور

قَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي

قبول کرنے والا توبہ کا ہے سخت عذاب کرنے والا صاحب

الطَّوْلِ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ۝

قوت کا نہیں کوئی معبود مگر وہ اس کی طرف سے پھر جانا

بِسْمِ اللَّهِ يَا بَارِكُ يَا بَارِكُ يَا بَارِكُ

شروع ساتھ نام اللہ کے ہمارا دروازہ ہے اور سورۃ تبارک یوازی اور بیس

سَقَفْنَا انْكَشَتْ يَمِينُ رَاسِ بِيْرْتِيْبِ

پھٹت ہمار گھر کی ہے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ترتیب سے بند

بِذُنْمَايِدْ كَهَيْعَصْنَ كَفَايْتْنَا حَمْزٌ

کریں کلمہ کہی عَصْنَ ہماری کفایت ہے حَمْز

عَسَقُ بِيْرْتِيْبِ انْكَشَتْ يَمِينُ رَاسِ بِيْرْتِيْبِ

عَسَقُ ترتیب سے بائیں ہاتھ کی انگلیاں

بِنْدَمَائِدِ حِمَائِنَا اٰمِيْنَ رَبِّ اَرْبَعِيْنَ مَرَّةً

بندر کے ہماری حمایت سے آمین (تین بار) پس جلد کفایت کریگا تجھ کو

اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ اَبَدًا

اللہ اور وہ سنانے والا جاننے والا ہے ایک بار

اَنْكَشَرْتَا فِي سَبْعِ سِنِّ الْعَرْشِ مَسْبُوْلًا

انگلیبان دونوں ہاتھوں کی کھولے پر وہ عرش کا لٹکا ہوا ہے ہم پر

عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا وَبِحَوْلِ

اور آنکھ خدا کی دیکھنے والی ہے ہماری طرف اور ساتھ مدد

اللّٰهِ لَا يَقْدِرُ اَحَدٌ عَلَيْنَا وَاللّٰهُ مِنْ

اللہ کے نہ قادر ہو سکے گا ہم پر کوئی اور اللہ گردان کے

وَرَاٰهُمْ مَّحِيْطٌ ۝ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ

سے گھیر رکھا ہے بلکہ وہ قرآن

مَجِيْدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝ قَالَ اللّٰهُ

مجید ہے لوح محفوظ کے پس اللہ

خَيْرٌ حَافِظًا ۝ قَالَ اللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا

بہتر ہے نگہبانی کرنے والا پس اللہ بہتر ہے نگہبانی کرنے والا

قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ

پس اللہ بہتر ہے نگہبانی کرنے والا اور وہ زیادہ مہربان ہے

الرَّاحِمِينَ ۝ إِنَّ وِلِيَّ اللَّهِ الَّذِي

مہربانی کرنے والوں کا تحقیق میرا کارساز اللہ ہے کہ اس نے

نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝

اتارا کتاب کو اور وہ دوست رکھتا ہے نیکو کاروں کو

بِهِفَّتْ بَارِقَانٌ تَوَلَّوْا قُلُوبَ حَسْبِيَ اللَّهُ

(سات بار) پس اگر پھر جائیں پس کہہ کہ کافی ہے مجھ کو اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ

ہیں کوئی معبود مگر وہ اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہ ہے

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ بِهِفَّتْ بَارِ

صاحب عرش عظیم کا (سات بار)

بِسْمِ اللَّهِ الشَّافِي بِسْمِ اللَّهِ الْكَافِي

ساتھ نام اللہ کے جو شافی ہے ساتھ نام اللہ کے جو کہ کافی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الْمُعَافِي بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي

ساتھ نام اللہ کے جو کہ عفو کرنے والا ہے ساتھ نام اللہ کے کہ

لَا يَضُرُّكُمْ إِسْبَهُ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ

نہیں ضرر پہنچائی ساتھ نام اس کے کوئی پھینر زمین میں

وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور نہ آسمان میں اور وہ سُننے والا جاننے والا ہے

سَبَّارٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(تین بار) اور نہیں پھرنانگناہوں سے اور نہ قوت طاعت مگر ساتھ اللہ

الْعَبِيَّ الْعَظِيمُ سَبَّارٌ وَصَلَّى اللَّهُ

بِرَّ بزرگا کے (تین بار) کہ درود اللہ

تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

بزرگا کا اوپر انیک خلق محمد کے اور اس کی اولاد

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا

اور اس کے اصحاب سب پر اپنی رحمت سے اے

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ

مہربان زیادہ مہربانوں کے تحقیق اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے اے ایمان والو

اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

درو دیکھو اس پر اور سلام حق سلام بھیجنے کا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اے اللہ درود بھیج اُوپر سردار ہمارے محمد کے اور اُوپر

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

اولاد سردار ہمارے محمد کے اور برکت بھیج اور سلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا اَللّٰهُ سَبِّحْ يٰ اَنُوْرُ سَبِّحْ يٰ اَللّٰهُ يٰ اَنُوْرُ

اے اللہ (تین بار) اے نور (دو بار) اے اللہ اے نور

يٰ اَحَقُّ يٰ اَمْبِيْنُ اَكْسَبْنِيْ مِنْ نُّوْرِكَ

اے حق اے ظاہر کرنے والے پھپھالے مجھے اپنے نور سے

وَعَلِّمْنِيْ مِنْ عِلْمِكَ وَفَهِّمْنِيْ مِنْ

اور سکھلا تو مجھے اپنے علم سے اور سمجھ دے مجھے اپنے

عِنْدِكَ وَاَسْمِعْنِيْ مِنْكَ وَاَبْصِرْنِيْ

پاس سے اور سنا تو مجھے اپنی طرف سے اور دکھا تو مجھے اپنے

بِكَ وَأَقْنِي بِشَهْوَدِكَ وَعَرَّفِي الطَّرِيقَ

ساتھ اور قائم کر مجھے اپنی حضوری میں اور پہچان دے مجھے اپنی طرف کے

إِلَيْكَ وَهَوِّنْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ إِتَاكَ

راستے کی اور آسان کر اوپر میرے اپنے فضل سے بے شک تو

عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَا سَمِيعُ يَا

اوپر ہر چیز کے قادر ہے اے سُننے والے لے

عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَلِيُّ

جانتے والے اے بڑو بار اے بزرگ اے بلند مرتبہ

اسْمِ دُعَائِنَا وَنِدَائِنَا بِخَصَائِرِ

سُن تو دعا ہماری کو اور پکار ہماری ساتھ خاص مہربانی

لَطْفِكَ آمِينَ ۝ آمِينَ ۝ آمِينَ ۝

اپنی کے آمین آمین آمین

بِهِرِ آمِينَ هِرْدُودِ سِتِّ آهَسْتَهُ بِرِزْمِينَ زَنْدُ وَتَصَوَّرَ

ہر آمین ہر دونوں ساتھ آہستہ زمین پر مالے اور اپنے

مَطْلُوبِ خُودِ كُنْزِ أَعْوَدِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

مطلوب کا خیال کرے بناہ مانگتا ہوں میں ساتھ کلمات اللہ

الْتَامَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ سِرًّا

کے پورے اور کامل ہیں سب شر اس چیز سے کہ پیدا کیا ہے (تین بار)

يَا عَظِيمَ السُّلْطَانِ يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ

اے بڑے غلبہ والے اے قدیم سے احسان کرنے والے

يَا دَائِمَ النِّعَمِ ۝ يَا بَاسِطَ الرِّزْقِ

اے ہمیشہ نعمت دینے والے اے فراخ کرنے والے روزی کے

يَا وَاسِعَ الْعَطَايَا يَا دَافِعَ الْبَلَايَا

اے کشادہ کرنے والے بخششوں کے اے دور کرنے والے بلاؤں کے

يَا سَامِعَ الدُّعَاءِ ۝ يَا حَاضِرَ الْيَسْرِ

اے سُننے والے دُعا کے اے وہ ذات کہ حاضر ہے کسی وقت

يَا غَائِبِ ۝ يَا مُوجِدًا عِنْدَ الشَّدَائِدِ

غائب نہیں اے وہ ذات کہ موجود ہے وقت سختیوں کے

يَا خَفِيَّ اللَّطْفِ يَا لَطِيفَ الصَّنْعِ

اے پوشیدہ مہربانی کرنے والے اے پاکیزہ کار اے اچھی طرح

يَا مُجَمِّلَ السُّتْرِ ۝ يَا حَلِيمًا لَا

ڈھکنے والے پوشیدہ عیون کے اے بڑو بار کہ نہیں

يَجَلُّ ۞ يَا كَرِيمًا لَا يَخُلُّ ۞ اقْضِ

جلدی کرتا اے بخشش کرنے والے کہ نہیں بخل کرتا پوری کر

حَاجَتِي بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ ۞

حاجت میری اپنی مہربانی سے اے مہربان زیادہ مہربانوں سے

سَبَّارِ يَا مُجِيبُ ۞ يَا مُجِيبُ ۞ يَا مُجِيبُ ۞

دین بار اے قبول کرنے والے اے قبول کرنے والے اے قبول کرنے والے

أَجِبْ دَعْوَتِي وَاقْضِ حَاجَاتِي ۞

قبول کر میری دعا اور پوری کر میری حاجتیں

وَاعْفِرْ خَوْبَتِي بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ

اور بخش مہربان سے اپنی مہربانی سے اے مہربان

الرَّاحِمِينَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

زیادہ مہربانوں سے اے اللہ درود بھیج اوپر سردار ہمارے

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞

محمد کے اور اوپر اولاد سردار ہمارے محمد کے اور

بَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ يَا حَفِظُ ۞ ۹۹ ۞ بَارِكْ

برکت بھیج اور سلام اے نگہبان

یا ۷۰ بار یا ۷۱ بار یا ۹ بار پڑھے بعد ازاں یہ

وسیلہ پڑھے اِلٰہِیْ تَوَسَّلْتُ بِكَرَمِکَ

اے اللہ میں نے وسیلہ پکڑا ساتھ بخشش

الْخَفِیِّ اِلٰہِیْ تَوَسَّلْتُ بِهَذَا الْجُرُزِ

پوشیدہ تیری کے اے اللہ میں نے وسیلہ پکڑا ساتھ اس تعویذ

الْاَعْظَمِ اَنْ تَقْضِیَ جَمِیْعَ حَاجَاتِیْ

بڑے کے اس بات پر کہ ہو لوری کرے تو میری تمام حاجتیں

وَمُرَادَاتِیْ وَاَنْ تَدْفَعَ شَرَّ جَمِیْعِ

اور مرادیں اور دور کر مجھ سے بُرائی سب

اَعْدَائِیْ وَحُسَّادِیْ الْوَحَا الْوَحَا

دشمنوں اور حاسدوں کی بہت جلد بہت جلد

الْوَحَا الْعَجُلَ الْعَجُلَ الْعَجُلَ

بہت جلد بہت جلد بہت جلد بہت جلد

السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ بِحَقِّ اِہْیَا

ابھی ابھی ابھی بہ برکت اہیسا

اَسْرَاهِيَا اَجِبْ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

اشراہیا کے قبول فرماتو اے زیادہ مہربان سب مہربانوں سے

يَا مُجِيبُ يَا مُجِيبُ يَا مُجِيبُ

اے قبول کرنے والے اے قبول کرنے والے اے قبول کرنے والے

اَدْعِيْهِ مَقْهُورِيْ اَعْدَاءِ

مقہوری اعداء کے لئے دعا

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا

اے اللہ نہ قتل کر ہم کو اپنے غضب سے اور نہ

تُهْلِكْنَا بَعْدَ اِبْرِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

ہلاک کر ہم کو اپنے عذاب سے اور عافیت دے ہم کو پہلے اس سے

اَللّٰهُمَّ لَا تَوَاخِذْنَا بِسُوْءِ اَعْمَالِنَا

اے اللہ نہ مواخذہ کر ہم سے ساتھ بڑے عملوں ہمارے کے

وَلَا تَسْلِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا فِي

اور نہ مسلط کر ہم پر ایسے کو جو نہ رحم کرے ہم پر نہ

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَكَفِّ اَيْدِيَ الظّٰلِمِيْنَ

دنیا اور آخرت کے اور روک لے ظالموں کے ہاتھوں کو

عَنَّا يَا حَفِیْظُ احْفَظْنَا وَیَسِّرْ أُمُورَنَا

ہم سے اے حفاظت کرنے والے ہم کو حفاظت میں رکھ اور آسان کر ہماری کاموں کو

وَ حَصِّلْ مُرَادَنَا وَ تَمِّمْ تَقْصِیْرَنَا

اور بر لا مراد میں اور ختم کر ہماری کوتاہیوں کو

وَ اشْفِنَا وَ اشْفِ مَرْضَانَا وَ اصْلِحْ ذَاتَنَا

اور شفا دے ہم کو اور شفا دے ہمارے مریضوں کو اور صلح پیدا کر

بَيْنَنَا وَ أَهْلِكَ أَعْدَانَا اللَّهُمَّ قَهْرُ

ہم میں اور ہلاک کر ہمارے دشمنوں کو اے اللہ مقہور کر میرے

أَعْدَائِي وَ شَتَّتْ شَتْلَهُمْ وَ فَرَّقْ

دشمنوں کو اور توڑ دے ان کے جھگڑے اور متفرق کر دے

جَمْعَهُمْ وَ مَزَّقْ دِيَارَهُمْ وَ قَلِّبْ

ان کی جماعت کو اور اُچاڑ دے ان کے شہروں کو اور اُلٹ دے

تَدْبِيرَهُمْ وَ خَرِّبْ بِنْيَانَهُمْ وَ بَدِّلْ

ان کی تدبیر کو اور اکھیڑ دے ان کی بنیاد کو اور بدل دے

أَحْوَالَ أَنْكَارِهِمْ وَ اقْرِبْ إِلَيْهِمْ وَ اقْصِرْ

احوال ان کا اور قریب کر دے ان کی موتیں اور گھٹا دے

أَعْمَارَهُمْ وَشَغَلَهُمْ بَآبِدٍ إِنَّهُمْ

ان کی عمریں اور مشغول کر دے انھیں ان کے بدنوں میں

وَخُذْهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝ يَا

اور پکڑ ان کو پکڑنا غالب مقتدر کا اسے

قَاهِرٌ ذُو الْبَطْشِ الشَّدِيدِ أَنْتَ الَّذِي

قہر کرنے والے پکڑنے والے سخت تو ہی وہ ذات ہے جس

لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ يَا قَاهِرُ يَا قَهَّارُ

سے طاقت نہیں بدلہ لینے کی اسے قہر کرنے والے بڑا قہر کرنے والے

تَقَهَّرَاتٍ بِالقَهْرِ وَالْقَهْرُ فِي

تو غالب ہو گیا ساتھ قہر کے اور قہر بیچ

قَهْرٍ لَكَ يَا قَهَّارُ ۝

قہر سے کے ہے اسے قہر کرنے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ

سب تعریف اللہ تعالیٰ کو جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا اور عاقبت کا

لِلسُّقِيْنَ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ

خوبیاں نیکوں کے لیے اور درود و سلام

عَلَى رَأْسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَ

اوپر رسول کے کہ نام ان کا محمد ہے اور ان کی آل اور

اصْحَابِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَاَمْرًا وَاَجْرًا

اصحاب اور اہل بیت اور بیٹیوں

وَذُرِّيَّتِهِ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ

اور اولاد اس کی کے سب پر ہو ساتھ رحمت تیری کے

يَا مَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○

اے مہربان نہایت رحم والے

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ اَمْثَلِهَا

جو نیکی لے کر آئے گا اس کو دس گنا ثواب ملے گا

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا

اور جو بُرائی لے کر آئے گا اس کو اس کے مثل ہی

مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

گناہ ہوگا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا

اِيْمَانٌ مُّفْصَلٌ وَنَمَازٌ يَزُجْجَانَةٌ

ایمان مفصل اور نماز پنج گانہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اِيْمَانٌ مُّفْصَلٌ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ

ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر

وَکُتُبِهٖ وَاَسْمٰئِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ

اور اسکی کتابوں پر اور اسکے پیغمبروں پر اور آخرت کے دن پر

وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنْ اللّٰهِ

اور تقدیر پر کہ اچھی اور بُری اللہ تعالیٰ کی طرف سے

تَعَالٰی وَابْعَثْ بَعْدَ الْمَوْتِ ط

ہوتی ہے اور قیامت کو زندہ ہونے پر مرنے کے بعد

اِيْمَانٌ مُّجْمَلٌ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ

میں یقین کرتا ہوں اللہ کے وجود پر جیسا کہ وہ ہے

بِاسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِیْعَ

اس کے ناموں پر اور جملہ صفات پر اور اس کے جملہ احکام کو

أَحْكَامِهِ إِقْرَأْ بِاللِّسَانِ وَتَصِدِّقْ

قبول کرتا ہوں جن کا لہنی زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے

بِالْقَلْبِ | اِذَانِ | اَللّٰهُ اَكْبَرُ | اَللّٰهُ

یقین کرتا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے

اَكْبَرُ | اَللّٰهُ اَكْبَرُ | اَللّٰهُ اَكْبَرُ | اَشْهَدُ

بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے میں گواہی دیتا

اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ | اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلٰهَ

ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا

اِلَّا اللّٰهُ | اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ

کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول

اللّٰهُ | اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں

وَاِتَى طَرَفِ مَنْهٖ | حَتَّىٰ عَلَى الصَّلٰوةِ | حَتَّىٰ عَلَى

نماز کے لئے آؤ نماز کے لئے

الصَّلٰوةِ | حَتَّىٰ عَلَى الصَّلٰوةِ | حَتَّىٰ عَلَى الصَّلٰوةِ

آؤ نجات پانے کے لئے آؤ

حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ ^ط فجر کی اذان میں ^{یہ زیادہ کر کے} الصَّلَاةُ

نجات پانے کے لئے آؤ نماز

خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ^ط الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ

اچھی ہے سونے سے نماز اچھی ہے سونے

النَّوْمِ ^ط اقامت میں ^{یہ زیادہ کر کے} قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

سے تحقیق کھڑی ہو گئی نماز

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ^ط پھر کہ ^{اللہ} اَكْبَرُ

تحقیق کھڑی ہو گئی نماز اللہ سب سے بڑا ہے

اللَّهُ اَكْبَرُ ^ط پھر کہ ^{اللہ} اِلَّا اللَّهُ

اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

دُعَا ^ط اَللّٰهُمَّ رَابِعًا ^ط هَذِهِ الدَّعْوَةُ

پھر اذان الہی تو پروردگار ہے اس کا بل او سے کا

الْكَامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اِنَّ مُحَمَّدًا

اور اس نماز کا جو قائم ہونے والی ہے محمد کو

لَوْ سِيْلَةٌ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْاَدْبَارَ جَهَ

وسیلہ دے اور بزرگی اور درجہ

الرَّفِيعَةَ وَابْعَثَهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي

بلند اور (یعنی) ان کو مقام محمود میں پہنچائے جس کا

وَعَدْتَهُ، وَأَسْرَارُ قُنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط

تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن انکی شفاعت نصیب کر

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَادَ بِرَحْمَتِكَ

بے شک تیرا وعدہ خلاف نہیں ہوتا اپنی رحمت سے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط | نَمَازٌ | سُبْحَانَكَ

اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اے خدا میرا دل

اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

تیری پاکی اور تعریف بیان کرتا ہے اور مبارک ہے تیرا نام

وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ط

اور بلند ہے تیری شان بجز تیرے کوئی معبود نہیں

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ

تعریف اور کمال کی کل باتیں اللہ کے لئے خاص ہیں جو جہان کا پالنے والا ہے بڑا مہربان

الرَّحِيمُ ۝ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ

نہایت رحم والا ہے مالک ہے قیامت کے دن کا ہم تیری ہی

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ

بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو راہِ راست کی

الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

ہدایت فرما (یعنی) ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے احسان کیا ہے

عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

(اور نہ بتاہم کو) ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کی راہ

وَلَا الضَّالِّينَ ۝ إِمِينٌ ۝ قُلْ هُوَ

جو گمراہ ہوئے ہماری یہ دعا قبول فرما کہہ دے اے محمدؐ وہ

اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ

اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہیں جنا اس نے

وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

اور نہ جنا گیا ہے اور نہ نہیں ہے کوئی اس کی برابری

اَحَدٌ ۝ یا کوئی اور سورت اللہ اکبر اور کونے میں جائے پڑھے پھر اور تین دفعہ پڑھے

کرنے والا اللہ سے بڑا ہے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ۝ پھر اللہ اکبر

پاک ہے میرا رب عظمت والا اللہ سے بڑا ہے

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ۝ کہہ کر سیدھا کھڑا ہو جائے اور یہ پڑھے

جو کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اسکو سنتا ہے

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ۝ پھر اللہ اکبر

اے پروردگار تعریف تیرے لئے ہے اللہ سے بڑا ہے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ۝ کہہ کر سجدہ میں چلا جائے اور تم از تحم تین بار یہ پڑھے

پاک ہے میرا رب برتر

پھر اللہ اکبر ۝ کہہ کر سجدہ سے سر اٹھائے اور اللہ اکبر

اللہ سے بڑا ہے اللہ سے بڑا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ۝ کہہ کر دوسرا سجدہ بھی اسی طرح ادا کرے اور اسی طرح دوسری رکعات بھی ادا کرے

سب عبادتیں جو زبان اور بدن

لِلَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالطَّيِّبَاتِ السَّلَامُ ۝

اور ہر عمدہ کام جو ادا ہو سکیں اللہ ہی کے لئے ہیں سلام ہو

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

اوپر آپ کے اے نبی اور رحمت اللہ کی

وَبَرَكَاتِهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ

اور برکتیں اُس کی سلامتی ہو اوپر ہمارے اور اللہ کے نیک

اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود

اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

بجز اللہ کے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد بیشک خدا کے بندے اور اسکے رسول ہیں

اگر نماز دو رکعت ہو تو درود شریف پڑھ کر نماز پوری کرے اور اگر نماز تین یا چار رکعت کی ہو تو پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے اور باقی نماز پوری کرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

الہی تو رحمت کر محمد پر اور محمد کی اولاد پر

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

اور ابراہیم کی آل پر بے شک تو تعریف والا بزرگ ہے

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

الہی تو برکت بھیج محمد پر اور محمد کی اولاد

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

پر جس طرح تو نے برکت نازل کی ابراہیم پر

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ جَمِيدٌ مَجِيدٌ

اور ابراہیم کی آل پر بے شک تو تعریف والا ہے بزرگی والا

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ

اے میرے پروردگار کر دے مجھے نماز درست رکھنے والا اور میری

ذُرِّيَّتِي صَلَاتِي رَابِنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا

اولاد کو بھی اے رب ہمارے میری دعا قبول فرما اے رب

اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

ہماری بخش دے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو

يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ يَا رَبَّنَا إِنَّا

جس دن حساب قائم ہو اے ہمارے رب دے

فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

ہم کو دنیا میں نیکیاں اور آخرت میں نیکیاں

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۖ وَنُورٌ مِنْهُ السَّلَامُ

اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے سلامتی ہو

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ط وَنُورٌ مِنْهُ السَّلَامُ

تم پر اور رحمت ہو اللہ کی سلامتی ہو تم پر

بَعْدَ كَيْ دُعَاؤِ اللَّهِ ط أَنْتَ السَّلَامُ

اور رحمت ہو اللہ کی ابھی تو سلامتی والا ہے اور جو

وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ

سلامتی ہے تجھ ہی سے ہے اور تیری طرف سلامتی رجوع ہوتی ہے

حَيْثُ كُنَّا سُبْحًا بِالسَّلَامِ وَأَدْخَلْنَا السَّلَامَ

اے خدا ہم کو سلامتی اور امن کے ساتھ زندہ رکھ اور داخل کر ہم کو جنت میں

تَبَارَكَ رَبُّنَا وَتَعَالَى يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط

برکت والا ہے تو ہے رب ہمارے اور تیرا منہ بلند ہے اے جلال و بزرگی والے

رُغَاءِ قَنُوتِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ

اللہ ہی ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے اور معافی مانگتے ہیں تجھ سے

وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُشِيرُكَ

اور ایمان لاتے ہیں تجھ پر اور بھروسہ رکھتے ہیں تجھ پر اور تعریف کرنے ہیں تیری

الْخَيْرُ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَ

اچھی اور شکر کرنے ہیں ہم تیرا اور ناشکری نہیں کرتے ہم تیری اور ہم ان کا گناہ اور

نَتُّرُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ

علیحدہ رہتے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں تیری اہلی تیرے ہی لئے عبادت ہے اور

لَكَ نَصِيٌّ وَنَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعِي وَنَحْفِدُ

تیرے ہی لئے ہماری نماز اور سجدہ ہے اور تیری ہی طرف ہماری دوڑ ہے اور ہم تیری ہی

وَنَرْجُو اِرْحَمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ

خدمت میں حاضر ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور ڈرتے ہیں تیرے عذاب بیشک

عَذَابِكَ بِالْكَفَارِ مُدْحِقٌ

تیرا عذاب کافروں کو سلینے والا ہے

رُعَايَ سَجْدَةٍ تَلَاوَتِ سَجْدَةٍ وَجَمَلِي لِلَّذِي خَلَقَهُ

سجدہ تلاوت میں پرعائن بار پڑھے میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ہی کیلئے جس نے اسے پیدا کیا

وَصَوْرَةَ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

اور اسکی صورت بنائی اور کھولے اس کے کان اور آنکھیں اپنی خاص جھانپت اور طاقت کے ساتھ

فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

برکت والا ہے اللہ بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

برائے ایصالِ ثواب

خواجہ عبدالرؤف وائیں

التماس ہے کہ

- ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ
- تین مرتبہ سورۃ اخلاص
- اول و آخر درود شریف
- تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو بخش دیں

متمنی و دعا

اہل خانہ